

القرآن

حَمْرَى الْعَيْنِ وَلِكُوْنِ اللَّهِ يَجْزِيُّهُمْ بِمَا كُوْنُوا فِي أَرْضِهِمْ

علاماتِ قیامت کے بارے میں

آخرت کی پیشگوئیاں

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مولانا محمد عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ تعالیٰ

ناشر

مکتبہ حقانیہ ٹی بی ہسپتال روڈ ملتان پاکستان
061-541093

وَكَانَ اللَّهُ أَطْعَلَ عِلْمًا عَلَى الْغَيْبِ إِلَّا كَمَا يَرِيدُ
وَكَانَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فِرْقَتِهِ
(القرآن)

علاماتِ قیامت

کے بارے میں

آنحضرت ﷺ کی پیشین گوئیاں

مولانا محمد عاشق الہبی بلند شہری حجۃ الشعلہ

مکتبہ حفاظتیہ

ٹیکنیکی ہسپتال روڈ ملتان

جملہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب : علامات قیامت

مصنف : مولانا محمد عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ

ناشر : مکتبہ حفانیہ لی بی ہسپتال روڈ ملتان

کمپوزنگ : آر۔ ایس۔ ڈیجیٹل A-17 بابر کمرشل سنٹر ملتان

قیمت

فہرست عنوانات

- | | | | |
|---|--|---|---|
| <p>۲۲</p> <p>۲۸</p> <p>۲۹</p> <p>۳۳</p> <p>۳۹</p> <p>۴۱</p> <p>۴۲</p> <p>۴۳</p> <p>۴۵</p> <p>۴۷</p> <p>۴۸</p> <p>۴۹</p> <p>۵۰</p> <p>۵۱</p> <p>۵۲</p> <p>۵۵</p> <p>۵۶</p> | <p>عمر میں بے برکتی ہو جائے گی</p> <p>کنجوی عام ہوگی اور قتل کی کثرت ہوگی</p> <p>شراب کو نام بدل کر حلال کریں گے</p> <p>سود عام ہو گا اور حلال و حرام کا خیال نہ کیا جائیگا</p> <p>چب زبانی سے روپیہ کمایا جائے گا</p> <p>گراہ کن لیدر اور جھوٹے نبی پیدا ہوں گے</p> <p>قتل کی اندھیر گردی ہوگی</p> <p>امانت اللہ جائے گی</p> <p>بلند مکانات پر فخر کیا جائے گا اور نالائق</p> <p>حکمراں ہوں گے</p> <p>موجودہ حکرانوں پر ایک نظر</p> <p>سرخ آنہی اور زلزلے آئینے صورتیں منع</p> <p>ہو جائیں گی اور آسمان سے پھر بریس گے</p> <p>اواقف کے متولیوں اور چندہ کرنے والوں کا حال</p> <p>گانا بجانا بہت رواج پا جائے گا</p> <p>نماز پڑھانے سے گریز کیا جائے گا</p> <p>نگلی عورتیں مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی</p> <p>بد نظری سے بچپے کا ثواب</p> <p>بظاہر درست اور دل میں دشمنی رکھنے والے پیدا ہوں گے</p> <p>ریا کار غاہد اور کچھ روزہ دار ہوں گے</p> | <p>۵</p> <p>۷</p> <p>۸</p> <p>۹</p> <p>۱۰</p> <p>۱۱</p> <p>۱۲</p> <p>۱۳</p> <p>۱۴</p> <p>۱۵</p> <p>۱۶</p> <p>۱۷</p> <p>۱۸</p> <p>۱۹</p> <p>۲۰</p> <p>۲۱</p> <p>۲۲</p> <p>۲۳</p> <p>۲۴</p> <p>۲۵</p> | <p>دیباچہ</p> <p>اسلام کا نام رہ جائے گا اور قرآن کے الفاظ رہ جائیں گے اور علماء سوء پیدا ہوں گے</p> <p>مسجدیں جائیں گی اور ان میں دنیا کی باشیں ہوا کریں گی</p> <p>دین پر عمل کرنا ہاتھ میں چنگاری لینے کے دین پر عمل کرنا ہاتھ میں چنگاری لینے کے</p> <p>برابر ہو گا اور بڑے بڑے فتنے ظاہر ہوں گے</p> <p>فتور کے وقت عبادت کا ثواب</p> <p>فتون میں عمل کرنے کا اجر</p> <p>اسلام سے اجنیت عام ہوگی</p> <p>ہر بعد کا زمانہ پہلے سے برا ہو گا</p> <p>کفر کی بھرمار ہوگی</p> <p>ایک جماعت ضرور حق پر قائم رہے گی</p> <p>مسلمان کبھی ختم نہیں ہوں گے</p> <p>حدیث سے انکار کیا جائے گا</p> <p>نئے عقیدے اور فتنی حدیثیں رائج ہوں گی</p> <p>قرآن کو ذریعہ معاش بنایا جائے گا</p> <p>مسلمانوں کی اکثریت ہو گی لیکن بیکار مسلمان مال دار ہو گئے مگر دیندار نہ ہو گئے</p> <p>بہوت عام ہو جائے گا</p> <p>مردوں کی کمی، شراب خوری اور زنا کی کثرت ہو گی</p> <p>علم اللہ جائے گا</p> |
|---|--|---|---|

- ظالم کو ظالم کہنا، یکیوں کی راہ بتانا، اور ۷۶ حضرت مهدی علیہ السلام کا ظہور
برائیوں سے روکنا چھوٹ جائے گا ۷۷ امام مهدی علیہ السلام کا حلیہ شب اور نام
برے اعمال کے نتیجے ۷۸ امام مهدی کے زمانہ میں دنیا کی حالت
اعمال صالح کے ثمرات ۷۹ حضرت مهدی کا کفار سے جنگ کرنا دجال کا
اس امت کے آخری دور میں صحابہ چیسا اجر ۸۰ لکھنا اور حضرت عیسیٰ کا آسمان سے اترنا
لینے والے مبلغ اور مجاہد ہوں گے ۸۵ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کا حلیہ
نبی اکرم ﷺ سے بے انتہا محبت کرنے ۸۶ دجال کا دنیا میں فاد مچانا اور حضرت عیسیٰ
علیہ السلام کا اسے قتل کرنا
دلندے انسانوں سے بات کریں گے ۹۰ دجال کا ابیان کرنے والوں کی تعداد
صرف مال ہی کام دے گا ۹۳ یہود کا قتل عام
چاندی سونے کے ستون ظاہر ہوں گے ۹۴ حضرت مهدی علیہ السلام کی وفات اور
موت کی تمنا کی جائے گی ۹۵ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امام بنتا
مال کی کثرت ہوگی ۹۶ مسلمانوں کو لے کر حضرت عیسیٰ کا طور پر چلا
جوہنے نبی ہوں گے ۹۷ حضرت عیسیٰ کے زمان میں رعایا کی حالت
زیارتے بہت آئیں گے ۹۸ حضرت عیسیٰ کی وفات اور ان کے بعد دیگر امرا
امت محمد یہ ﷺ یہود و نصاری اور ۱۰۱ قرب قیامت کی کچھ اور بڑی نشانیاں
فارس و روم کا ابیان کرے گی ۱۰۲ زبردست دھواں
ہر شخص اپنی رائے کو ترجیح دے گا اور نفسانی ۱۰۳ دلبة الارض
خواہشوں کی ابیان کرے گا ۱۰۴ مغرب سے آفتاب لکھنا
دو خاص بادشاہوں کے بارے میں پیشیں گوئی ۱۰۵ زمین میں دھنس جانا
ایک حصی خانہ کعبہ کو بر باد کرے گا ۱۰۶ یہیں سے آگ کا لکھنا
پھلوں میں کی ہو جائے گی ۱۰۷ سمندر میں پھیکنے والی ہوا
سب سے پہلے مذہبی ہلاک ہوگی ۱۰۸ قیامت کے بالکل قریب لوگوں کی حالت
قرب قیامت کے تفصیلی حالات ۱۰۹ اور موقع قیامت
عیسائیوں سے صلح اور جنگ ۱۱۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله رب العلمين و الصلوة والسلام على محمد سيد المرسلين الذى اوتى علم الاولين والآخرين وعلى الله و صحبه و من تبعهم بحسان الى يوم الدين.

اما بعد! پيش نظر رسالہ میں سید عالم حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے وہ ارشادات جمع کئے گئے ہیں جن میں آپ نے آئندہ زمانہ میں پیش آنے والے واقعات سے باخبر فرمایا تھا۔ ان کے پڑھنے سے آنحضرت ﷺ کے بے انتہا علوم کا اندازہ ہو گا اور معلوم ہو گا کہ آپ نے جو قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی تھیں وہ حرف بحرف آج پوری ہو رہی ہیں۔

احقر نے ان ارشادات کو جمع کرنے کا خاص لحاظ رکھا ہے جو دور حاضر میں واقع ہو رہے ہیں اور حرف بحرف صحیح ثابت ہو رہے ہیں یا آئندہ واقع ہونے والے حالات کے لئے تہذید کی مانند ہیں۔

ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو بھی ان واقعات سے نفع پہنچے گا اور وہ پڑھ کر یقین کر لیں گے کہ داعی اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام درحقیقت ان سب انسانوں کے سردار تھے جنہیں اس مالک حقیقی سے خصوصی تعلق تھا کیونکہ تیرہ سو برس پہلے آئندہ زمانہ کے آنے والے فتنوں اور گمراہ کن لیڈروں اور عالم گیر حادث و بلیات سے باخبر کر دینا اور وثوق اور یقین کے ساتھ بیان کرنا کہ گویا آنکھوں سے دیکھ کر بیان کر رہے ہیں اسی انسان کا کام ہو سکتا ہے جسے خدا ہی نے علم کی دولت سے نوازا ہو۔ جو توشی اور نجم بھی بے شمار غلطیاں کر جاتے ہیں اور کافی بھی ان گنت غلط خبریں دے دیتے ہیں۔ مگر ہادی عالم ﷺ کی ایک پیشین گوئی بھی آج تک غلط ثابت

نہیں ہوئی اور کیونکر ہو سکتی ہے جب کہ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (الجم: ۲، ۳)

یہ پیشین گوئیاں آنحضرت ﷺ کے بے انتہا سمندر علم کا ایک قطرہ علم ک مالم تکن تعلم (یعنی خدائی علم) کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہیں۔ حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول خدا ﷺ نے کھڑے ہو کر قیامت تک پیش آنے والی ہر چیز بتادی جسے میرے یہ ساختی (حضرات صحابہؓ) جانتے ہیں۔ پھر جس نے یاد رکھا اسے یاد ہیں اور جو بھول گیا سو بھول گیا۔ نیز فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے دنیا ختم ہونے تک آنے والے گمراہی کے اس لیڈر کا نام بتادیا تھا جس کے ساختی ۳۰۰ یا اس سے زیادہ ہوں اور اس کے باپ اور قبیلہ کا نام بھی بتادیا تھا۔ (مکلوة)

جو حضرات زمانہ موجودہ کے حوادث و آفات سے تجھ آ کر مستقبل پر نظر لگائے ہوئے ہیں اور بار بار زبان سے کہتے ہیں کہ دیکھئے آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ انہیں اس رسالہ کے مطالعہ کر کے مجر صادق ﷺ کے ارشادات ضرور معلوم کرنے چاہئیں۔

قارئین سے درخواست ہے کہ الحقر مولف اور ناشر کو اپنی خصوصی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔

العبد العاصی

محمد عاشق الہی بلند شہری مظاہری عفی اللہ عنہ و عافاہ

۲۰ صفر ۱۴۷۰ھ

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اسلام کا نام رہ جائے گا اور قرآن کے الفاظ

رہ جائیں گے اور علماء سوء پیدا ہوں گے

حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ عنقریب لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہے گا اور قرآن کی صرف رسم باقی رہ جائے گی۔ ان کی مجددیں (نقش و نگار نائل، برتنی پنکھوں وغیرہ سے) آباد ہوں گی اور ہدایت کے اعتبار سے دیران ہوں گی۔ ان کے علماء آسمان کے نیچے رہنے والوں میں سب سے زیادہ بڑے ہوں گے ان علماء سے فتنے پیدا ہوں گے اور پھر ان میں واپس آجائیں گے۔

”اسلام کا صرف نام باقی رہے گا“

یعنی اسلامی چیزوں کے نام ہی لوگوں میں رہ جائیں گے اور ان کی حقیقت باقی نہ رہے گی جیسا کہ آج کل نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کے بس نام ہی باقی ہیں اور ان کی حقیقت اور روح اور ادائیگی کے وہ طریقے اور کیفیتیں باقی نہیں ہیں جو رسول خدا ﷺ سے منقول ہیں اور کروڑوں مسلمان ان سے کوئے ہیں۔ قرآن شریف صرف رسماء ہی پڑھا جاتا ہے اس کے الفاظ اور خوشحالی کا توانیاں ہے مگر اس کے معانی پر غور کرنا اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا تو مسلمان کے تصور میں بھی نہیں رہا۔ مجددیں زیب و زینت سے خوب آراستہ ہیں لکش فرش، قیمتی غالیجے، دیدہ زیب فانوس، عمدہ عمدہ ہندے اور آرام و راحت کی چیزیں

مسجدوں میں موجود ہیں مگر ہدایت سے خالی ہیں، مسجدوں میں دنیا کی باتیں طعنے غبیتیں بے دھڑک ہوتی ہیں اور امام و موزون تو مسجدوں کو گھر تی سمجھتے ہیں۔ اس کی مزید توضیح آئندہ حدیث کی تشریع میں کی جائے گی۔

علماء کے بارے میں جو یہ ارشاد فرمایا کہ علماء سے فتنہ نکلے گا اور ان میں واپس آجائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء بگز جائیں گے اور رشد و ہدایت کی راہ چھوڑ دیں گے تو عالم میں فساد ہو گا اور پھر اس کی زد میں علماء بھی آجائیں گے اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ علماء دنیاداروں اور ظالموں کی مدد کریں گے اور پیسے اینٹھنے کے لئے دنیا کی مرضی کے موافق مسئلے بتائیں گے اور پھر دنیادار ہی ان کا مزاج ٹھکانے لگائیں گے۔

ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں آئندہ ایسے لوگ ہوں گے جو دین کی سمجھ حاصل کریں گے اور قرآن پڑھیں گے (پھر سرمایہ داروں کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم سرمایہ داروں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے دنیا حاصل کرتے ہیں اور اپنادین بچا کر ان سے الگ ہو جاتے ہیں (پھر ارشاد فرمایا کہ) حالانکہ ایسا ہونہیں سکتا (کہ دنیاداروں کے پاس جا کر دین سالم رہ جائے) جس طرح قادی کے درخت سے کانٹوں کے سوا کچھ نہیں لیا جا سکتا۔ اسی طرح سرمایہ داروں کے قریب سے گناہوں کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔

جو علماء سرمایہ داروں کے پاس جاتے ہیں وہ عموماً علماء سوء ہی ہیں۔ چند نکلوں کیلئے ان کے پاس جاتے ہیں اور اپنا وقار کھو بیٹھتے ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن معاویہ (۱) قاد ایک کائنے دار درخت کا نام ہے اس فلم کے موقع میں اہل عرب اسے مثال کے طور پر پیش کرتے۔

فرماتے تھے کہ اگر اہل علم اپنے علم کو محفوظ رکھتے اور اسے صلاحیت والے انسانوں میں خرچ کرتے تو زمانہ کے سردار بن جاتے لیکن دنیا حاصل کرنے کے لئے انہوں نے علم کو دنیا والوں کے لئے خرچ کیا جس کی وجہ سے زمانہ والوں کی نظر وں میں ذلیل ہو گئے۔ (مشکوٰۃ)۔

دوسرے انسانوں کی طرح آج کل کے علماء بھی فکر آخرت سے خالی ہو گئے ہیں اور اس فانی زندگی کو اپنے علم کا مقصد بنارکھا ہے۔ سیاسی لیدر بننے، شہرت حاصل کرنے، روپیہ کمانے جوڑنے کی دھن میں سرگردان ہیں اور موجودہ زمانے کے علماء میں خال خال ہی ایسے ہیں جو اسلام کی تبلیغ کرتے ہوں ورنہ آج تو علماء کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ جلوسوں میں گاندھی ازم یا نیشنلزم، سو شلزم اور کمیونزم کی اشاعت کرتے ہیں اور ارشادات نبویہ کی بجائے مخلوق کے خود ساختہ نظاموں کی طرف دعوت دیتے ہیں۔

مسجد میں سجائی جائیں گی اور ان میں دنیا کی باتیں ہوا کریں گی

حضرت انسؑ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک یہ بھی ہے کہ لوگ مسجد میں بنا کر فخر کریں گے اور آج کل یہی حال ہے اور بقول حضرت ابن عباسؓ[ؓ]
لتز خرفها كما ز خرفت اليهود و النصارى[ؓ]
تم ضرور مسجدوں کو یہود و نصاری کی طرح سجاوے گے۔
دل کو منتشر کرنے والے رنگ برنگ کے نائل، جہاڑ، فانوس، ہانڈیاں،

و فریب فرش اور بیش بہا پردے اور دوسرا زیب وزینت اور آرام و راحت کی چیزوں مسجدوں میں موجود ہیں اور ان دنیاوی چیزوں نے مسجدوں میں پہنچ کر اوقات نماز کے علاوہ مسجدوں کو مغلل کرنے پر مجبور کر دیا ہے اور حفاظت کے لئے مستقل نگرانوں اور چوکیداروں کی ضرورت پیدا کر دی ہے مسجدیں ان دنیاوی چیزوں سے آباد ہیں اور نمازیوں سے خالی ہیں۔ جو نمازی ہیں وہ مسجدوں میں دنیا کی باتوں میں مشغول رہتے ہیں۔ مسجدوں میں نہ خشوع والی نماز ہے نہ تعلیمی حلقة ہیں نہ دینی مشورے ہیں نہ ذکر و تلاوت سے آباد ہیں۔ حالانکہ مسجد رسول اللہ ﷺ اور حضرات خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کے زمانے میں دین اور دینیات کی ترقی کے کاموں اور اس سے متعلق مشوروں کا مرکز تھی، کنز العمال کی ایک روایت میں ہے کہ جب تم اپنی مسجدوں کو سجائے لگو اور قرآنوں کو دیدہ زیب بنانے لگو تو سمجھ لو کہ تمہاری ہلاکت کا وقت قریب ہے۔

بیہقی کی روایت میں ہے کہ شعب الایمان میں مردی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ میں ایسے لوگ ہوں گے جن کی دنیاوی باتیں ان کی مسجدوں میں ہوا کریں گی۔ تم ان کے پاس نہ بیٹھنا کیونکہ خدا کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

دین پر عمل کرنا ہاتھ میں چنگاری لینے کے برابر ہوگا اور بڑے بڑے فتنے ظاہر ہوں گے

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ آیا گا کہ دین پر جنے والا ان میں ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں چنگاری پکڑنے والا ہو۔

یہ زمانہ اس وقت موجود ہے کیونکہ ہر طرف بد دینی و بے حیائی اور فحش کاری کی فضاء ہے، فتن و فجور سرکشی کا ماحول ہے اول تو دیندار ہے ہی نہیں اور اگر کوئی دین پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اہل ملک، اہل وطن عزیز اقرباء آڑے آ جاتے ہیں۔ یہوی کہتی ہے کہ تنخواہ میں میرا پورا نہیں پڑتا، دنیا رشتہ لے رہی ہے تم بڑے پر ہیز گاربے ہوئے ہو۔ ہم عمر مذاق اڑا رہے ہیں کہ داڑھی رکھ کر ملا بن گئے۔ جھاڑ سالگائے پھر رہے ہیں۔ ریل میں یا لاری میں سفر کر رہے ہیں اور ایک شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے مگر اس کے لئے نہ ریل ٹھہر سکتی ہے نہ لاری رک سکتی ہے۔ لیکن اگر کسی کا کچھ دنیوی نقصان ہو جائے تو سب ہمدردی کے لئے حاضر ہیں آج کل دین داری اختیار کرنا ساری دنیا سے لڑائی مول لینے کے مترادف ہے۔ سب کی پہنچیاں نے، سب کو تاریخ کرے دین بچانے کے لئے دنیا کا نقصان کرے تو دیندار بنے لیکن بہت مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں صرف رضاۓ خداوندی کا خیال ہے اور جو دنیا کو منہ نہیں لگاتے۔

وبمهمجتی یا عازلی الملک الذى اسخطت كل الناس فى ارضائه
دین کا درد پیدا کرنے اور بد دینی کی فضائے نکلنے کی قوت حاصل کرنے کے لئے خانقاہوں اور دین داروں کی مجلسوں میں شرکت کرنا بہت ضروری ہے۔ جب انسان بد دینی کے ماحول سے معصیت اختیار کر سکتا ہے تو دین داری کی فضائے میں پہنچ کر نیک بھی بن سکتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے دینداروں سے دور ہو تو بد دینوں سے بھی دور رہے۔ اسی حقیقت کے پیش نظر رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ عنقریب ایسا ہو گا کہ مسلمان کا بہترین مال چند کریاں ہوں گی جنہیں لے کر پہاڑ کی چوٹیوں اور جنگلوں میں چلا جائے گا (اور اس صورت سے) اپنا دین

بچانے کے لئے فتنوں سے بھاگے گا!

ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب فتنے پیدا ہوں گے۔ اس وقت بیٹھا ہوا کھڑے ہوئے سے بہتر ہو گا (کیونکہ بیٹھا ہوا شخص بہ نسبت کھڑے ہوئے شخص کے فتنے سے دور ہو گا) اور کھڑا ہوا چلنے والے سے بہتر ہو گا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہو گا۔ جو شخص فتنوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا فتنے اسے اچک لیں گے۔ لہذا اس وقت جسے کوئی بچاؤ اور پناہ کی جگہ مل جائے تو وہاں پناہ لے لے۔ ۳

فتنه کے وقت عبادت خداوندی میں مشغول ہونا بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ حضرت معقل بن یسار روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قتل کے زمانہ میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے۔ ۴ حضرت ابو تعلیمؓ فرماتے تھے کہ میں نے رسول خدا ﷺ سے اس آیت یعنی **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ يَعْلَمُ اللَّهُ عَزَّ ذَلِكَ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَى يُؤْمِنُ** (المائدۃ: ۱۰۵)

کا مطلب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ نیکیوں کا حکم کرتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو۔ یہاں تک کہ جب تم لوگوں کا یہ حال دیکھو کہ بخل کی اطاعت کی جانے لگے اور خواہش نفسانی پر عمل ہونے لگے اور (دین پر) دنیا کو ترجیح دی جانے لگے اور ہر صاحب رائے اپنی رائے کو مقدم سمجھنے لگے اور تم اس حال میں ہو جاؤ کہ (لوگوں میں رہ کر تمہارے لئے) فتنے میں پڑ جانا ضروری ہو جائے تو خاص طور پر اپنے نفس کو سنبھال لیتا اور عوام کو چھوڑ دینا (کیونکہ تمہارے آگے یعنی آنے والے زمانہ میں صبر کے دن ہیں جس نے ان میں صبر کیا) (یعنی دین پر بھارہا تو گویا) اس

(۱) بخاری شریف۔ (۲) اس وقت تبلیغی جماعت کا مرکز نظام الدین فتنوں سے بچنے کے لئے سب جگہوں سے اچھی جگہ ہے۔ ناظرین تجربہ کر لیں۔ (۳) بخاری و مسلم۔ (۴) مسلم شریف۔

نے چنگاری ہاتھ میں لی۔ (پھر فرمایا کہ) اس زمانے میں دین پر عمل کرنے والے کو ان پچاس آدمیوں کے عمل کے برابر اجر ملے گا۔ جو اس زمانے کے علاوہ (امن سے دنوں میں) اس جیسا عمل کریں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ان میں سے پچاس شخصوں کا اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا (نبیس بلکہ) تم میں سے پچاس عمل کرنے والوں کا اجر ملے گا۔

اسلام سے اجنبیت

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام اجنبیت اور بیگانگی (کمپری) کی حالت میں ظاہر ہوا تھا (کہ اس سے لوگ بھاگے تھے اور کوئی کوئی قبول کر لیتا تھا) اور عنقریب پھر بیگانہ ہو جائے گا جیسا کے شروع میں تھا (چنانچہ اسلام پر عمل کرنے والا کوئی کوئی ہی ملے گا۔ پھر فرمایا کہ) سو ایسے لوگوں کو خوشخبری ہو جو (اسلام پر چلنے کی وجہ سے) بیگانے (شمار) ہوں۔^۲

مطلوب یہ کہ جب میں نے اسلام کی دعوت دی تو اسے شروع شروع میں چند لوگوں نے ہی قبول کیا اور اسلام کو عموماً لوگوں نے کوئی غیر مانوس اور اجنبی چیز سمجھا حتیٰ کہ اسلام قبول کرنے والوں کو بد دین کہا گیا اور ان کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ ایک مرتبہ جب مسلمان جب شے چلے گئے تو مشرکین نے وہاں سے نکلوانے کی کوشش کی اور بادشاہ سے شکایت کی کہ کچھ نوجوان بے وقوف لڑکے اپنا قومی دین چھوڑ کر ایک نئے دین میں داخل ہو گئے ہیں۔ اور وہ نیا دین ایسا ہے جسے ہم پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ سورہ ص میں ہے کہ رسول خدا ﷺ کی دعوت سن کر مشرکین نے کہا **مَا سَيِّعُنَا بِهِذَا فِي اللَّهِ الْأَخْرَقَ إِنْ هَذَا إِلَّا مُفْلِكَأُّقَ** (ص: ۷)

(۱) ترمذی شریف۔ (۲) مسلم شریف

پھر ارشاد فرمایا کہ بعد میں لوگوں نے خوب اسلام قبول کیا اور خوب پھیلایا۔ لیکن آگے چل کر ایسا ہوگا کہ اسلام پھر اپنی اصلی حالت پر آجائے گا اور اس کے احکام کو قبول کرنے اور عمل کرنے والے نہ ملیں گے۔ اسلام کی چیزوں کو بیگانگی کی نظر وہ سے دیکھیں گے گویا اسلام کو جانتے بھی نہیں۔ اس وقت اسلام پر عمل کرنے والا کوئی کوئی ہوگا اور کہیں کہیں کوئی پکا مسلمان نظر آئے گا۔ لیکن ایسے مسلمان اگرچہ لوگوں کی نظر وہ میں گرے ہوئے ہوں گے اور ان سے کوئی بات بھی کرنی پسند نہ کرے گا مگر خدا کی جانب سے میں انہیں خوشخبری سناتا ہوں۔

ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک دین حجاز کی طرف اس طرح سمت جائے گا جیسے سانپ اپنے بل میں سمت کر گھس جاتا ہے اور دین صرف حجاز ہی رہ جائے گا جیسے جنگلی بکری صرف پہاڑ کی چوٹی ہی میں رہتی ہے (پھر فرمایا کہ) بے شک دین بیگانگی اور اجنبیت (کسپری) کی حالت میں ظاہر ہوا تھا اور عقیریب پھر بیگانہ ہو جائے گا۔ جیسا کہ شروع میں تھا سو خوشخبری ہو بیگانے لوگوں کو جو میری ان سنتوں کو سنواریں گے جنہیں میرے بعد لوگ بگاڑ دیں گے۔

ہر بعد کا زمانہ پہلے سے برا ہوگا

حضرت زیبر بن عدیؓ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت انس بن مالکؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاجج کے ظلم کی شکایت کی۔ حضرت انسؓ نے شکایت سن کر فرمایا کہ صبر کرو (معلوم نہیں آگے کیا ہو) کیونکہ کوئی زمانہ بھی تم پر ایسا نہ آئے گا کہ اس کے بعد والا زمانہ اس سے زیادہ برا نہ ہو۔ جب تک تم اپنے رب سے ملاقات نہ کرلو (یعنی مرتبے دم تک ایسا نہ ہوگا کہ آنے والا زمانہ پہلے سے اور موجودہ

زمانے سے اچھا آجائے) یہ بات میں نے رسول خدا ﷺ سے سنی ہے۔
معلوم ہوا کہ زمانہ کی اور زمانہ والوں کی شکایت فضول ہے اور آئندہ زمانہ
میں اچھے حاکموں کی امید بھی غلط ہے۔ لہذا جتنا بھی وقت ملے اور عمر کا جو بھی
سانس مل جائے اسے فرمیت سمجھے اور اعمال صالح کے ذریعہ اللہ سے امید میں
باندھے اور اسی کے قبہ و غصب سے ڈرتا رہے۔

کفر کی بھرمار ہوگی

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اندر ہیری
رات کے نکڑوں کی طرح آنے والے (سیاہ) فتنوں سے پہلے (نیک) عمل کرنے
میں جلدی کرو (اس زمانہ میں) انسان صحیح کو مومن ہو گا اور شام کو
مومن ہو گا صحیح کو کافر ہو گا۔ ذرا سی دنیا کے بد لے اپنے دین کو پیچ ڈالے گا۔ ۲

جتنے فتنے غالب آجاتے ہیں تو انسان اعمال صالح میں مشغول ہونے میں
ستنکڑوں آڑیں محسوس کرتا ہے اور دین پر چلنا ناممکن معلوم ہونے لگتا ہے اور ایسے
وقت میں ایمان کی بقاء سخت خطرے میں ہوتی ہے اسی لئے ہادی عالم ﷺ نے
نیک اعمال میں سبقت اور جلدی کرنے کا مشورہ دیا کہ رکاؤں کے آنے سے
پہلے ہی نیک اعمال میں لگ جاؤ اور ایمان کو محفوظ کروتا کہ خدا خواستہ فتنوں میں گھر
کر نیک اعمال سے نہ رہ جاؤ۔ یہ زمانہ بڑے فتنوں کا زمانہ ہے ہر طرف سے
گمراہی کی جانب لیدر کھینچ رہے ہیں اور دین کے بدله ذرا سی دنیا حاصل کرنے کی
ایک ادنیٰ مثال یہ ہے کہ کچھری میں جھوٹی قسم کھا کر گواہی دینا بہت سے انسانوں کا
پیشہ بن گیا ہے۔

ایک جماعت ضرور حق پر قائم رہے گی اور مجد آتے رہیں گے

حضرت معاویہؓ فرماتے ہیں میں نے رسول خدا ﷺ سے سنا ہے کہ میری امت میں ہمیشہ ایک ایسی جماعت رہے گی جو خدا کے حکم پر قائم ہوگی۔ موت آنے تک وہ اسی حال پر رہیں گے۔ ان کی مخالفت اور عدمِ معاونت انہیں کچھ نقصان نہ پہنچائے گی۔ (یعنی انہیں اس کی پرواہ ہرگز نہ ہوگی کہ زمانہ والوں کا روایہ کیا ہے اور زمانے والے ہمارے مخالف ہیں یا موافق ہیں) دوسری حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں قیامت تک ایک جماعت رہے گی جس کی خدا کی جانب سے مدد ہوتی رہے گی جو ان کا ساتھی نہ بنے گا انہیں کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا।

بیہقی کی ایک روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کے آخری دور میں ایسے لوگ ہوں گے جنہیں وہی اجر ملے گا جوان سے پہلوں کو ملا تھا، وہ نیکیوں کا حکم کریں گے برا بیوں سے روکیں گے اور فتنہ والوں سے لڑیں گے۔ (بیہقی)

حضرت ابراہیم بن عبد الرحمنؓ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ ہر آنے والے دور میں اس علم کے جانے والے ہوں گے جو غلو (بڑھا چڑھا کر بیان) کرنے والوں کی تحریفوں سے اور باطل والوں کی دروغ بیانیوں سے اور جاہلوں کی تاویلیوں سے اس کو پاک کرتے رہیں گے۔ (بیہقی)

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ خدائے تعالیٰ

اس امت کے لئے ہر سو سال کے بعد ایسا شخص بھیجا رہے گا جو اس کے دین کو نیا کرے گا۔ (ابوداؤد)

خدا کا یہ وعدہ دوسرے وعدوں کی طرح پورا ہوتا رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا اگر حق گواہ اور ثابت قدم جماعت قرون اولیٰ سے آج تک باقی نہ رہتی تو اہل فتن، معتزلہ، بدعتی، نبوت کے دعویدار اصلاح عالم کے مدعا، حدیث کے منکر، قرآن کی نئی تفسیریں گھڑنے والے دین کو بدل کر رکھ دیتے۔ حضرات صوفیاء و محمد شین ہمیشہ رہے ہیں اور رہیں گے والحمد للہ علی ذکر۔

مسلمان کبھی ختم نہیں ہوں گے

حضرت ثوبانؓ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ میں نے خدا سے دعا کی میری ساری امت کو عام قحط کے ساتھ ہلاک نہ کرے اور ان پر کوئی دشمن غیروں میں سے ایسا مسلط نہ کرے جو ان سب کو ختم کر دے۔ خدائے نے فرمایا کہ جب میں کوئی فیصلہ کرتا ہوں تو اس کو ناٹھیں جا سکتا۔ میں تم کو یہ وعدہ دیتا ہوں کہ تمہاری امت کو عام کال سے ہلاک نہ کروں گا اور ان پر غیروں میں سے کوئی ایسا دشمن مسلط نہ کروں گا جو ان کو ایک ایک کر کے ختم کر دے اگرچہ تمام زمین پر بننے والے ہر طرف سے جمع ہو جائیں گا

حدیث سے انکار کیا جائے گا

حضرت مقدام بن معدیکربؓ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ خبردار! یقیناً مجھے قرآن دیا گیا ہے اور قرآن جیسے اور احکام بھی دیئے گئے ہیں۔ پھر فرمایا خبردار! ایسا زمانہ آئے گا کہ پیٹ بھرا انسان اپنی آرام گاہ پر بیٹھا ہوا کہے گا کہ

بس تمہیں قرآن کافی ہے۔ اس میں جو حلال بتایا اسے حلال سمجھو اور اس نے جسے حرام بتایا اسے حرام سمجھو (حدیث کی ضرورت نہیں ہے) پھر فرمایا کہ حالانکہ رسول اللہ ﷺ کا حکم کسی چیز کے حرام ہونے کے لئے ایسا ہی ہے جیسا خدا نے کس چیز کے حرام ہونے کا حکم دیا ہے!

یہ پیشین گوئی عرصہ دراز سے صادق آ رہی ہے کہ پیٹ بھرے یعنی دولت مند جو سرمایہ کے نشہ میں چور ہیں اور جو ذرا سا پڑھ لکھ گئے ہیں صرف قرآن کو ہدایت کے لئے کافی سمجھتے ہیں اور احکام حدیث چونکہ نفس پر گراں گذرتے ہیں اس لئے احادیث سے قطعاً انکار کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ حدیثیں گھٹی ہوئی ہیں مولویوں کی ایجاد ہی وغیرہ وغیرہ حالانکہ قرآن کریم کے احکام حدیث کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتے اور اس کی تفصیلات سنت نبویہ ﷺ کے بغیر سمجھ میں آ ہی نہیں سکتیں۔ قرآن شریف میں ہے:

مَا أَنْكِمُ مِنَ الرَّسُولِ مُخْلِدُوهُ وَمَا أَنْكِمُ عَنْهُ فَإِنْتُمْ مُؤْمِنُونَ (الحضر ۲۷)

(جو حکم تمہیں رسول دے اسے قبول کرو اور جس سے رو کے اس سے رک جاؤ)

”پیٹ بھرا“ آنحضرت نے اس لئے فرمایا کہ غریبوں کو تو اتنی فرصت ہی نہیں ملتی کہ ادھر ادھر کی بحشوں میں پڑ کر اپنا دین برپا کریں۔ ہاں مالدار لوگ شیطان کے مقصد کو پورا کرتے ہیں ذرا سا مطالعہ کیا اور محقق بن گئے۔ اس دور کے ابوحنیفہؓ بھی یہی ہیں اور جنید وقت بھی یہی ہیں ان کے نزدیک مسلمانوں کی ترقی سود کے جواز میں اور تصویریوں کے حلال ہونے سے اور نیکر کوٹ پتلون پہنچنے اور ان دوسری بد اعمالیوں میں پوشیدہ ہے جنہیں آنحضرت ﷺ نے حرام فرمادیا

۔۔۔

نئے عقیدے اور نئی حدیثیں راجح ہوں گی

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ آخری زمانہ میں بڑے بڑے مکار اور جھوٹے پیدا ہوں گے جو تمہیں وہ بتائیں سنائیں گے جونہ کبھی تم نے سنی ہوں گی اور نہ تمہارے باپ دادا نے تم ان سے بچنا اور انہیں اپنے سے بچانا وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنہ میں نہ ڈال دیں۔

صاحب مرقات اس کی تشریع میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹی جھوٹی باتیں کریں گے اور نئے نئے احکام جاری کریں گے غلط عقیدے ایجاد کریں گے۔“ اس قسم کے لوگوں میں سے بہت سے گزر چکے ہیں جن میں سے ایک غلام ”احمد“ قادریانی تھا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ بتایا ختم نبوت سے انکار کیا۔ خود کو نبی بتایا۔ اس کے علاوہ اس کی بہت سی خرافات مشہور ہیں۔ ملت اسلامیہ کے لئے ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ جو کوئی باطل جماعت عقائد فاسدہ لے کر کھڑی ہوتی ہے تو اس کے ہم نو اقرآن و حدیث سے ان غلط عقائد کا اثبات کرنے لگتے ہیں۔

چنانچہ آج کل کمیوزم قرآن شریف سے ثابت کیا جا رہا ہے اور موجودہ جمہوریت کو اسلام کی جمہوریت کے مطابق بتایا جا رہا ہے۔

ایک صاحب نے تو غصب ہی کر دیا جب ان سے کہا گیا کہ ڈارون کا عقیدہ ارتقاء قرآن کے خلاف ہے کیونکہ قرآن تو انسان کی ابتداء حضرت آدم علیہ اصلوٰۃ والسلام سے بتاتا ہے تو ارشاد فرمایا کہ ممکن ہے سب سے پہلا بندر جو انسان بتا ہو وہ آدم ہی ہو (معاذ اللہ)

قرآن کو ذریعہ معاش بنایا جائے گا

حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ ہم قرآن شریف پڑھ رہے تھے اور مجلس میں عرب کے شہریوں کے علاوہ دیہات کے باشندے اور غیر عرب بھی تھے۔ اسی اثناء میں آنحضرت ﷺ تشریف لے آئے اور فرمایا کہ پڑھتے رہو تم سب ٹھیک پڑھ رہے ہو اور عنقریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو تیر کی طرح درست کریں گے (یعنی حروف کی ادائیگی کا بہت زیادہ لحاظ رکھیں گے) اور ان کا مقصد قرآن پڑھنے سے دنیا حاصل کرنا ہوگا اور اس کے ذریعہ آخرت نہ سنواریں گے!

دوسری روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد عنقریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو گانے اور نوحہ کے طریقہ پر پڑھیں گے اور قرآن ان کے حلقوں سے آگے نہ بڑھے گا (یعنی ان کا پڑھنا درجہ قبولیت کو نہ پہنچ سکے گا) ان پڑھنے والوں کے اور ان کی قراءت سن کر خوش ہونے والوں کے دل فتنہ میں مبتلا ہوں گے۔

آج کل بالکل یہی نقشہ ہے کہ مساجد میں قرآن سنا کر سوال کیا جاتا ہے تیجے اور چالیسویں کے موقع پڑھوا کر اپنی عزت بڑھائی جاتی ہے۔ میت کی قبر پر چالیس روز تک قرآن شریف پڑھ کر اس کی اجرت لی جاتی ہے۔ تراویح میں قرآن سنا کر پیٹ پالا جاتا ہے۔ مخارج و صفات کی ادائیگی کا تو بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ مگر قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے کوئوں دور ہیں۔ گیارہ مہینے تک نمازیں غارت کیس داڑھی منڈائی، حرام کمایا اور رمضان آتے ہی مصلیٰ پر پہنچ کر قرآن سنانے لگے۔ جامع مسجد وہلی میں دیکھ لیجئے کہ ادھر نماز ختم ہوئی اور ادھر

(۱) مخلوٰۃ شریف۔ (۲) ابو داؤد۔

تلاوت کی آواز آنے لگی۔ قاری صاحب قرآن حکیم کی تلاوت فرمائے ہے ہیں اور رومال بھیک کے لئے بچھا رکھا ہے۔

مسلمانوں کی اکثریت ہو گی لیکن بیکار

حضرت ثوبانؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ (کفر و باطل کی) جماعتیں تمہیں ختم کرنے کے لئے آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح بلا کر جمع کر لیں گی جیسے کھانے والے ایک دوسرے کو بلا کر پیالہ کے آس پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر ایک صاحب نے سوال کیا کہ کیا ہم اس روز کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں! بلکہ تم اس روز تعداد میں بہت ہو گے لیکن گھاس کے ان تنکوں کی طرح ہو گے جنہیں پانی کا سیلا ببھا کر لے جاتا ہے (پھر ارشاد فرمایا کہ) اور خدا ضرور ضرور تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا رب نکال دے گا۔ اور بالضرور یقیناً وہ تمہارے دلوں میں کامیابی اور سستی ڈال دے گا۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ سستی کا کیا (سبب) ہو گا۔ اس پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا (یعنی مال و دولت سے) محبت کرنے لگے گی اور موت کو مکروہ سمجھنے لگے گی!

برسون سے یہ پیشین گولی حرف پر حرف صادق ہو رہی ہے اور مسلمان آج اپنی اس حالت زار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی قوم انہیں نہ عزت و وقت کی نگاہ سے دیکھتی ہے نہ دنیا میں ان کا رہنا گوارا کرتی ہے ایک وہ بھی زمانہ تھا کہ دوسری قومیں اپنے اوپر مسلمانوں کو حکمران دیکھنا چاہتی تھیں۔ ایک دور یہ ہے کہ غیر مسلم اقوام مسلمان کو اپنی قلم رو میں رکھنا بھی پسند نہیں کرتیں تمام دنیا کے

مسلمان ایک ہی وقت میں ایک دم ختم ہو جائیں۔ یہ تو ہرگز کبھی نہیں ہو گا جیسا کہ پہلے پیشین گوئی گذر چکی ہے البتہ ایسے واقعات گذر چکے ہیں کہ کسی ملک میں جہاں خود حکمران تھے انقلاب کے بعد وہ وہاں سے جان بچا کر بھی نہ جاسکے۔ اپنے اس کی زندہ اور مشہور مثال ہے۔

مسلمانوں کو آج ذلت و خواری کا منہ کیوں دیکھنا پڑ رہا ہے اور کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی کیوں غیروں کی طرف تک رہے ہیں۔ اس کا جواب خود ہادی عالم ﷺ کے ارشاد میں موجود ہے کہ دنیا کی محبت اور موت کے خوف کے باعث یہ حال ہو رہا ہے۔ جب مسلمان دنیا کو محبوب نہ سمجھتے تھے اور جنت کے مقابلے میں (جوموت کے بغیر نہیں مل سکتی) دنیا کی زندگی ان کی نظرؤں میں کچھ بھی حقیقت نہ رکھتی تھی (اس لئے وہ موت سے ڈرتے نہ تھے) تو گو تعداد میں کم تھے لیکن دوسری قوموں پر حکمراں رہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کر کے غیروں کے دلوں تک پر حکومت کرنے لگے۔ آج بھی جو ہمارا حال ہے ہم اسے خود بدل سکتے ہیں بشرطیکہ پچھلے مسلمانوں کی طرح دنیا کو ذلیل اور موت کو عزیز از جان سمجھنے لگیں ورنہ ذلت اور بڑھتی ہی رہے گی۔

مسلمان مال دار ہوں گے مگر دیندار نہ ہوں گے

حضرت علیؑ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچا نک مصعب بن عمیرؓ آنکے جن کے بدن پر صرف ایک چادر تھی اور اس میں چجزے کا پیوند لگا ہوا تھا ان کا یہ حال دیکھ کر اور ان کا اسلام سے پہلا زمانہ یاد کر کے رسول اللہ ﷺ رونے لگے (کیونہ۔ حضرت مصعب بن عمیرؓ اسلام لانے سے پیشتر بڑے ملام اور قیمتی کپڑے پہننا کرتے تھے) پھر ارشاد فرمایا کہ (مسلمانوں

اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا۔ جب صبح کو ایک جوڑا پہن کر نکلو گے اور شام کو دوسرا جوڑا پہن کر گھر سے نکلو گے اور ایک پیالہ سامنے رکھا جائے گا اور دوسرا پیالہ انٹھایا جائے گا اور تم اپنے گھروں پر (زیب وزینت کے لئے) اس طرح کپڑے کے پردے ڈالو گے جیسے کعبے کو کپڑوں سے پوشیدہ کر دیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ جب تو ہم آج کی نسبت بہتر ہوں گے (کیونکہ) عبادت کے لئے فارغ ہو جائیں گے اور کمانے کے لئے محنت نہ کرنی پڑے گی۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں تم اس دن کی نسبت آج ہی اچھے ہو۔ بظاہر اگرچہ مغلس ہو لیکن دولت ایمان سے مالدار ہو اور اس زمانہ میں بظاہر مالدار ہو وہ گے لیکن ایمان کے اعتبار سے مغلس)۔ درحقیقت آج وہی زمانہ ہے کہ اکثر مسلمانوں کو خدا نے دولت دی ہے اور اس قدر دی ہے کہ اگر عمر بھر بھی نہ کماںیں اور دین ہی رضی اللہ عنہم عبادت ہی میں سارا وقت خرچ کر سکتے ہیں مگر افسوس انہیں مرنے کے بعد کی زندگی کا فکر ہی نہیں۔ البتہ اچھے اچھے کھانے اور عمدہ سے عمدہ پہنچنے کا دھیان ضرور ہے۔ اسکوں جانے کا لباس الگ بازار میں جانے کا جوڑا الگ، رات کا الگ، طرح طرح کے کھانے اور سالن پک رہے ہیں اور بس اسی میں مست ہیں۔ اس عیش و عشرت کی وجہ سے خدا کے سامنے تو جھکنا درکنار کبھی جھکنے کا خیال نہیں آتا۔ اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے حضرات صحابہؓ سے ارشاد فرمایا کہ وہ بیتات کا زمانہ تمہارے لئے اچھا نہ ہوگا۔ آج ہی تم اچھے ہو کر بیٹ کے باوجود دین پر مجے ہوئے ہو۔

بنخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔

”خدا کی قسم مجھے تمہارے مالدار ہونے کا ذر نہیں بلکہ اس کا ذر ہے کہ تمہیں دنیا زیادہ دے دی جائے جیسے تم سے پچھلے لوگوں کو دی گئی تھی اور تم دنیا میں اس طرح پھنس جاؤ جیسے وہ پھنس گئے تھے پھر تمہیں دنیا بر باد کر دے جس طرح انہیں بر باد کر دیا تھا۔“

قابل غور بات یہ ہے کہ مالدار تو اس لئے دیندار نہیں کہ ان کے پاس مال ہے لیکن تعجب یہ ہے کہ آج کل کے غریب بھی دین سے اتنے ہی دور ہیں جتنے مالدار بلکہ اس سے بھی زیادہ اور وجہ یہ ہے کہ دینداری کا ماحول نہیں رہا نہ مالدار گھرانوں میں نہ غریبوں کے جھونپڑوں میں۔ فالی اللہ المشتکی۔

جھوٹ عام ہو جائے گا

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہؓ کی عزت کرو تم میں (یعنی امت محمدیہ میں) سب سے اچھے لوگ یہی ہیں پھر ان کے بعد وہ اچھے ہوں گے جو ان کے بعد آئیں گے۔ اس کے بعد جھوٹ پھیل جائے گا حتیٰ کہ یقیناً ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ انسان بغیر قسم دلائے قسم کھائے گا اور بغیر گواہ بنائے گواہی دیں گے۔ الحدیث (رواہ التسائی) مسلم شریف کی ایک روایت ہے جو حضرت ابو ہریرہؓ سے مردی ہے کہ پھر ان کے بعد ایسے لوگ آجائیں گے جو موتا ہونے کو پسند کریں گے۔

بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ پھر ایسے لوگ آجائیں گے کہ ان کی گواہی ان کی قسم سے آگے بڑھے گی اور ان کی قسم ان کی گواہی سے آگے بڑھے گی۔

ان روایات کو جمع کرنے سے معلوم ہوا کہ تبع تابعین کے دور کے بعد

جوہت اس قدر ہوگا کہ بات بات میں بلا وجہ اور خواہ جخواہ جھوٹی قسم کھایا کریں گے۔ بلا ضرورت بولنے کا مرض اس قدر پھیل جائے گا۔ کہ بغیر گواہ بنائے گواہ بن کر کھڑے ہو جایا کریں گے کہ یہ واقعہ مجھے بھی معلوم ہے اور جب یہ قصہ پیش آیا تو میں بھی موجود تھا حالانکہ اس واقعہ کی خبر بھی نہ ہوگی۔ جھوٹی قسم اور جھوٹی گواہی کا انتار رواج ہو جائے گا کہ گواہی قسم سے پہلے زبان سے نکلنے کی کوشش کرے گی اور قسم گواہی سے پہلے زبان پر آنا چاہے گی۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے تھے کہ آئندہ یقیناً ایسا ہوگا کہ شیطان انسانی صورت میں آ کر لوگوں کو جھوٹی باتیں سنائے گا۔ اس کی باتیں سن کر لوگ متفرق ہو جائیں گے جب ان میں سے کوئی شخص اس کی باتوں کی دوسروں سے روایت کرے گا تو کہے گا کہ میں نے یہ بات ایک ایسے شخص سے سنی ہے جسے چہرہ سے پہچانتا ہوں مگر نام نہیں جانتا۔

حدیث بالا میں یہی ارشاد ہے کہ موٹا ہونے کو زیادہ پسند کریں گے یعنی آخرت کی فکران کے دل سے جاتی رہے گی اور خدا کے سامنے جواب ہی کا خوف نہ ہوگا اور اسی بے فکری کے باعث بے تحاشا مرغنا مال کھا کھا کر موت ہو جائیں گے۔ کھانا پینا اور مال جمع کر کے پھولنا ہی ان کی زندگی کا مقصد بن کر رہ جائے گا۔

مردوں کی کمی، شراب خوری اور زنا کی کثرت ہوگی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ علم اٹھ جائے گا۔ جہالت

(۱) مکہۃ شریف۔ (۲) بخاری و مسلم

بہت بڑھ جائے گی۔ زنا کی کثرت ہو گی، شراب بہت پی جائے گی مرد کم ہو جائیں گے۔ عورتیں اس قدر زیادہ ہو جائیں گی کہ پچاس عورتوں کی خبر گیری کے لئے ایک تین مرد ہو گا۔

اس حدیث میں جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اس وقت ہو بہو ہو رہا ہے البتہ عورتوں کی ابھی اتنی زیادتی نہیں ہوئی جتنی اس حدیث میں مذکور ہے مگر یورپ کی جنگیں عنقریب ہی اس پیشین گوئی کو سچا کر دھانے والی ہیں۔

علم اٹھ جائے گا

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ (اسلام کے) فرائض خود بھی سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ۔ قرآن خود پڑھو اور لوگوں کو بھی پڑھاؤ کیونکہ میں تمہارے پاس سے جانے والا ہوں اور علم (بھی) اٹھ جائے گا اور فتنے ظاہر ہوں گے۔ حتیٰ کہ جب کسی معاملے میں دو شخص بھگڑیں گے تو کوئی فیصلہ کرنے والا تک نہ ملے گا۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ بندوں میں سے خدا علم کو اچانک نہ اٹھائے گا بلکہ علماء کو موت دے کر علم کو رفتہ ختم کرے گا حتیٰ کہ جب خدا کسی عالم کو نہ چھوڑے گا تو لوگ جاہلوں کو امیر اور (صدر) بنائیں گے اور ان (سے مسائل اور معاملات کے بارے میں) سوال کئے جائیں گے تو وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔

(۱) بخاری و مسلم۔ (۲) مخلوٰۃ شریف۔ (۳) مخلوٰۃ شریف۔

عمر میں بے برکتی ہو جائے گی

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ وقت جلدی جلدی نہ گزرنے لگے (پھر اس کی تشریع فرمائی کہ) ایک سال ایک ماہ کے برابر ہوگا اور ایک ماہ ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور ایک ہفتہ ایک دن کے برابر ہوگا اور ایک دن ایک گھنٹی کے برابر ہوگا اور ایک گھنٹی ایسے گزر جائے گی جس طرح آگ کا شعلہ یک یک بھڑک کر ختم ہو جاتا ہے۔

وقت جلدی جلدی گزرنے کا مطلب کیا ہے۔ اس کے بارے میں شراح حدیث کے مختلف اقوال ہیں۔ اقرب اور راجح یہ ہے کہ عمریں بے برکت ہو جائیں گی اور انسان اپنی عمر سے دین و دنیا کے وہ سب فائدے حاصل نہ کر سکے گا جو اس قدر بے وقت میں حاصل ہو سکتے تھے۔

فخر عرض کرتا ہے کہ آئندہ عمروں میں کیا کچھ بے برکتی ہونے والی ہے اسے تو خدای جانے۔ اس وقت کا حال تو یہ ہے کہ جب مہینہ یا ہفتہ ختم ہو جاتا ہے تو فوراً خیال آتا ہے کہ ابھی تو شروع ہوا تھا یک یک ختم ہو گیا۔ اس حقیقت سے آج کل کے انسان انکار نہیں کر سکتے۔

کنجوی عام ہو گی اور قتل کی کثرت ہو گی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ (آئندہ جل کر) زمانہ جلدی گزرنے لگے گا اور علم اٹھ جائے گا فتنے ظاہر جعل گے اور دلوں میں کنجوی ڈال دی جائے گی اور قتل کی کثرت ہو گی۔

شراب کو نام بدل کر حلال کر دیں گے

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اس طرح اسلام کو بگاؤنے کی کوشش کی جائے گی کہ شراب پیسیں گے صحابہؓ نے سوال کیا کہ مسلمان شراب پیسیں گے؟ حالانکہ خدا نے اسے سختی سے حرام فرمایا ہے آپ ﷺ نے فرمایا اس کا نام بدل کر حلال کر لیں گے۔ (درمی)

یعنی اسلام کے مدی اس زمانے میں سے اس قدر دیدہ دلیر ہوں گے کہ خدا کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کر دیں گے۔ شراب جیسی چیز کو بھی جسے قرآن نے ناپاک اور شیطان کا فعل اور آپس کے بغض و عداوت کا باعث اور ذکر اللہ اور نماز سے روکنے کا شیطانی آلہ بتا کر سختی سے بچنے کا حکم فرمایا ہے نہ صرف پیسیں گے بلکہ اس کا نام بدل کر حلال سمجھ لیں گے۔ عالموں اور مفتیوں کو اس کا نام کچھ اور بتا دیں گے جس سے حرمت کا فتوی نہ دیا جاسکے۔ ایک شراب ہی کیا آج کل تو بہت سی حرام چیزوں کو تاویل کر کے حلال سمجھ لیا گیا ہے اور تاویلیں اس قدر پچھر ہیں کہ تاریخنگوتوں (مکڑی کا جلا) سے زیادہ ان کی حقیقت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر قرآن پڑھانے ہی کی اجرت کو لے لیجئے کہ اسے ناجائز سمجھتے ہیں اور پھر اس تاویل سے حلال بھی کہا جاتا ہے کہ صاحب ہم تو وقت کی اجرت لیتے ہیں، تو گویا جن اکابر سلف نے ناجائز ہونے کا فتوی دیا تھا ان کے زمانہ میں بغیر وقت خرچ کئے ہی قرآن حکیم کی تعلیم دینے کا کوئی طریقہ موجود ہوگا۔

اسی طرح رשות کو ہدیہ سمجھ کر حلال سمجھ لیا جاتا ہے۔ جالانکہ اگر کھود کر دید کر پتہ لگایا جائے تو وہ رשות ہی نکلے گی۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ جو شخص کسی حاکم کو اسکے

عہدہ پر فائز ہونے سے پہلے رشتہ داری یا دوستانہ میں کچھ لیا دیا کرتا تھا تو اس کا لینا توہید یہ ہے اور عہدہ پر جانے کے بعد جو لوگ دینے لگتے ہیں وہ سب رشوت ہے۔ مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ایک صاحب کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لئے بھیجا جنپیں ابن اللتبیہ کہتے تھے۔ جب وہ زکوٰۃ وصول کر کے لائے تو عرض کیا یہ تمہارا ہے (یعنی بیت المال کا حصہ ہے) اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے۔ یہ سن کر رسول خدا ﷺ نے خطبہ دیا اور حمد و صلوٰۃ کے بعد فرمایا۔

اما بعد۔ میں تم میں سے بعض لوگوں کو ان کاموں کے لئے مقرر کرتا ہوں جن کا خانے مجھے متولی بنایا ہے تو ان میں سے ایک آکر کہتا ہے کہ یہ تمہارا ہے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے (اگر ایسی ہی پوزیشن رکھتا تھا) تو اپنے باپ یا ماں کے گھر میں کیوں نہ بینھ گیا۔ پھر دیکھتا کہ اسے ہدیہ دیا جاتا ہے یا نہیں۔“

”کیوں نہ بینھا اپنے باپ یا ماں کے گھر میں۔“ اس سے معلوم ہوا رہا کہ جو حق عہدہ کی وجہ سے ملے وہ رشوت ہی ہے۔ اعاذنا اللہ منه

حرام چیز کا نام بدل کر اور اس کی دوسری صورت بنا کر حلال سمجھ لینا اس امت سے پہلے لوگوں میں بھی رائج تھا چنانچہ صحیحین کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں پر خدا کی لعنت ہو کہ خدا نے جب چبی کا استعمال ان پر حرام کر دیا تو اسے اچھی صورت میں (یعنی تیل بناؤ کر) بھپا اور اس کی قیمت کھا گئے۔

سود عام ہو گا اور حلال و حرام کا خیال نہ کیا جائے گا
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے

ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان یہ پرواہ نہ کرے گا کہ اس نے حلال حاصل کیا یا حرام لیا۔

بعض لوگ کہہ دیتے ہیں آج کل حلال تو ملتا ہی نہیں لیکن یہ سمجھنا کہ حلال آج کل ملتا ہی نہیں نفس کا دھوکہ ہے چونکہ حلال کا دھیان رکھنے کی وجہ سے انسان قیود و حدود میں بندھ جاتا ہے اور بقول حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ:

الحلال لا يحتمل السرف

حلال میں فضول خرچی کی گنجائش نہیں ہوتی۔

اور عیش و مستی کی زندگی گزارنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس لئے نفس یہ تاویل سمجھاتا ہے کہ آج کل حلال تو ملتا ہی نہیں لہذا حرام حلال کا خیال فضول ہے۔ لیکن جن بندوں کے دل میں خدا کا خوف ہے اور جنہوں نے سرور عالم ﷺ فرمان:

لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت و كل لحم نبت من السحت كانت النار اولى به. الحديث.

جنت میں وہ گوشت داخل نہ ہوگا جو حرام سے بڑھا ہو جو گوشت حرام سے بڑھا ہو دوزخ اس کی زیادہ مستحق ہوگی۔
سنا ہے وہ حلال ہی کا دھیان رکھتے ہیں اور خدا انہیں حلال ہی دیتا ہے اگرچہ حلال ان کو زیادہ نہیں ملتا اور حلال طلب کرنے والوں کو با اوقات دنیوا ضرورتیں بھی رکی رہتی ہیں۔ لیکن آخرت کے بے پناہ عذاب سے بچنے کے لئے دنیا کی جلد ہی ختم ہو جانی والی تکلیفوں کا برداشت کرنا ہر عقائد کے لئے ضروری اور لازمی ہے۔

یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ حلال ملنے کی وقت بھی تو خود ہماری ہی پیدا کردہ ہے اگر تقویٰ اور پرہیزگاری کی طرف لوگوں کا رخ ہو جائے اور سب حلال کمانے کی فکر کریں تو جو مشکلات آج پیدا ہو رہی ہیں وہ کسب حلال میں ہرگز پیش نہ آئیں مگر حال یہ ہے کہ جو دیندار اور پرہیزگار سمجھے جاتے ہیں۔ برس ہابس کے نمازی ہیں وہ بھی کمانے کے سلسلہ میں مفتی صاحب کی خدمت میں یہ معلوم کرنے کے لئے نہیں پہنچتے کہ میں تجارت کرنا چاہتا ہوں یا فلاں محکمہ میں مجھے ملازمت مل رہی ہے یہ جائز ہے یا ناجائز؟ اور تجارت میں فلاں معاملہ مشروع ہے یا ہے مشروع؟ ہاں سجدہ سہوا اور وضو غسل کے مسائل خوب پوچھتے ہیں اور ان کے بارے میں خوب بحث بھی کی جاتی ہے۔ حالانکہ شریعت میں ہر محکمہ اور ہر معاملہ کے احکام موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شریعت کے ساتھ یہود کا یہی معاملہ تھا کہ بعض پر عمل کرتے اور بعض کو پس پشت ڈال رکھا تھا۔ اس حقیقت کو خداوند قدوس نے یوں ارشاد فرمایا ہے۔

افْتُوِّ مِنْوْنَ بِعَيْضِ النَّكَبِ وَنَكْفُرْ وَنَ بِعَيْضِ (البقرة: ۸۵)

ترجمہ:- کیا خدا کی کتاب کے ایک حصہ پر تمہارا ایمان ہے اور تم اسی کتاب کے کچھ حصوں کا انکار کرتے ہو؟ (بقرہ)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے دس درہم (تقریباً) کا کپڑا خریدا اور اس میں ایک درہم حرام کا تھا (یعنی دسوں حصہ بھی اگر حرام کا ہو) تو جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر رہے گا خدا اس کی نماز قبول نہ فرمادے گا۔

دوسری حدیث میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو لے سفر میں ہو (یا اس لئے فرمایا کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس کی شکستہ

حال کا یہ عالم ہو کہ) بالبھرے ہوئے ہوں، غبار آلود ہو (اور) آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے یا رب یا رب کہہ کر دعا کرتا ہو اور اس کا کھانا بھی حرام ہو، لباس بھی حرام ہو اور اس حرام کی غذاری ہو تو اس وجہ سے کس طرح اس کی دعا قبول ہوگی۔

ان عیدوں کے باوجود بھی مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ حرام لینے میں ذرا بھی نہیں جھمکتے حالانکہ آنحضرت ﷺ نے مشتبہ چیز تک سے بچنے کا حکم فرمایا تھا کہ۔

دع ما یریک الی مala یریک (مشکوہ)

ترجمہ:- شک میں ڈالنے والی چیز کو چھوڑ کر اس کی طرف بڑھ جو تجھے شک میں نہ ڈالے۔

احمد اور داری کی روایتوں میں اس کی مزید توضیح اس طرح آتی ہے۔

البر ما اطمانت الیه النفس واطمان الیه القلب والاثم ماحاک

فی النفس وتردد فی الصدر وان افتاك الناس.

ترجمہ:- بھلائی وہ ہے جس سے نفس مطمئن ہو جائے اور دل میں کھکا نہ رہے اور گناہ وہ ہے جو دل میں کھکے اور اس کے کرنے سے سینے میں گھسن محسوس ہو (یعنی اس کے حلال ہونے کی دل گواہی نہ دے اگرچہ مفتی تجھے (اس کے حلال ہونے کا) فتنی دیں۔

ترمذی اور ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ بندہ اس وقت تک متقی نہ ہوگا جب تک حلال کو بھی اس خوف سے نہ چھوڑ دے کہ کہیں حرام نہ ہو۔^۲

(۱) مسلم شریف (۲) اخرجه فی المخلوۃ

سود عام ہو گا

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ضرور ضرور ایک ایسا دور آئے گا۔ کہ کوئی شخص ایسا باقی نہیں رہے گا جو سود کھانے والا نہ ہو اور اگر سود بھی نہ کھائے گا تو اسے سود کا دھواں اور بعض روایات میں غبار پہنچ جائے گا۔ یہ پیشین گوئی بھی اس وقت صادق آ رہی ہے۔ بُناؤں سے تعلق رکھنے والوں اور بنک کے ذریعہ کار و بار چلانے والوں کو اور پھر ان سے شرکت یا ملازمت کے ذریعہ روپیہ حاصل کرنے والوں کو شمار کرلو اور پھر دیکھو کہ سود سے یا اس کے اثر سے کون نفع رہا ہے؟

چرب زبانی سے روپیہ کمایا جائے گا

حضرت سعد بن ابی واقص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ایسے لوگ موجود نہ ہو جائیں جو اپنی زبانوں کے ذریعے پیٹ بھریں گے جیسے گائے بیل اپنی زبانوں سے پیٹ بھرتے ہیں۔

”زبانوں کے ذریعے پیٹ بھریں گے“ یعنی لمبی لمبی تقریبیں کر کے اور گھنٹوں مسلسل لکھر دے کر عوام کو اپنی جانب مائل کریں گے اور ان کا ذریعہ معاش زبانی جمع خرچ اور لیدڑی ہو گا اور اس طریقے سے جو روپیہ ملے گا بلا لحاظ حرام و حلال خوب ہضم کرتے جائیں گے جس طرح گائے بیل خٹک و تر کا لحاظ کئے بغیر اپنے سامنے کا تمام چارہ چٹ کر جاتے ہیں۔

زیادہ بولنا اور مسلسل بولنا رسول خدا ﷺ کو پسند نہ تھا اس لئے بہت سے

(۱) احمد ابو داؤد وغیرہ۔ (۲) مکملۃ عن احمد۔ (۳) من المرقات۔

ارشادات میں کم بولنے کی نصیحت فرمائی ہے اور اس عادت سے منع فرمایا ہے کہ بولتے ہی چلے جاؤ اور درمیان میں توقف بھی نہ کرو۔ خود رسول اللہ ﷺ کی عادت تھی کہ جب کوئی بات فرماتے تو تین بار فرماتے تھے تاکہ سمجھنے والے سمجھ لیں یہ نہیں کہ ایک بات کہی پھر دوسری پھر تیسری اور مسلسل بولتے رہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ کے کلمات علیحدہ علیحدہ ہوتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں کہ رسول اللہ ﷺ تمہاری طرح بات میں بات نہ پروتے جاتے تھے بلکہ اس طرح کلام فرماتے تھے کہ تمام کلمات الگ الگ ہوتے تھے (اور) جسے پاس بیٹھنے والے یاد کر لیتے تھے۔
(مشکوٰۃ شریف)

مگر آج سب سے اچھا مقرر اسی کو سمجھا جاتا ہے جو کئی سمجھنے مسلسل بولنا جائے اور ایسی تقریر کرے جو بہت سے حاضرین کی سمجھ سے بھی بالاتر ہو۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت عمر بن العاصؓ کے سامنے بھی تقریر کر ڈالی تو حضرت عمرؓ نے فرمایا اگر یہ زیادہ نہ بولتا تو اس کے لئے بہتر تھا۔ کیونکہ میں نے رسول خدا ﷺ سے سنا ہے کہ مجھے کم بولنے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ کم بولنا ہی بہتر ہے ابو داؤد اور ترمذی کی ایک روایت میں ہے جو حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ خدا یقیناً زبان دراز آدمی سے بہت ناراض رہتا ہے جو (بولنے میں) اپنی زبان کو اس طرح چلاتا ہے جیسے گائے (کھانے میں) اپنی زبان (دانتوں اور زبان کے آس پاس) چلاتی ہے۔

چونکہ دور حاضر کے لیڈر اور واعظوں اور مقررلوں کی غرض شاہراہ عمل پر ڈالنا نہیں ہوتی بلکہ صرف یہ مقصد ہوتا ہے کہ لوگ ہماری تقریر سے محظوظ ہوں اور ہمارے معتقد بن جائیں اس لئے وعظ و تقریر کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کے

حق میں سرور کائنات ﷺ نے فرمایا ہے۔

من تعلم صرف الكلام قلوب الرجال الناس لم يقبل الله منه يوم
القيمة صرفاً ولا عدلاً (مشکوٰة)

ترجمہ:- جس نے بات پھیرنے کا طریقہ اسلئے سیکھا کہ لوگوں کے دلوں کو
اپنے پھندے میں پھنسائے قیامت کے دن خدا نہ اس کا نفل قبول کرے گا نہ فرض۔

گمراہ کن لیڈر اور جھوٹے نبی پیدا ہوں گے

حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا یہ میرے
ساتھی (حضرات صحابہ) واقعٹا بھول گئے یا (ان کو یاد تو ہے مگر) بظاہر بھولے
ہوئے سے رہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے دنیا ختم ہونے سے پہلے پہلے پیدا
ہونے والے فتنہ کے ہر اس لیڈر کا نام مع اس کے باپ اور قبلیہ کے نام کے بتا دیا
تھا جس کے مانے والے ۳۰۰۰ یا اس سے زائد ہوں۔

حضرت ثوبان کی روایت میں ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ
مجھے اپنی امت کے متعلق گمراہ کرنے والے لیڈروں کا خوف ہے۔
بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ قیامت نہ ہوگی جب تک ۳۰ کے
قریب ایسے فربی (اور) اور جھوٹے نہ آجائیں جن میں ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ
میں نبی ہوں۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ سے لوگ بھلائی
کی باتیں پوچھا کرتے تھے (آئندہ کیا کیا بہتری کا زمانہ آنے والا ہے) اور میں
آپ سے برائی کے متعلق پوچھا کرتا تھا (کہ آئندہ کیا کیا مصائب بلا کیں اور

حوادث و آفات کا ظہور ہونے والا ہے) تاکہ آنے والی بلا میں مجھے نہ گھیر پاویں۔ اسی عادت کے مطابق میں نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم جاہلیت اور خرابی میں پڑے ہوئے تھے خدا نے (اسے دور فرمائے) ہم کو یہ بہتری (یعنی اسلام کی دولت) عنایت فرمائی تو کیا اس بہتری کے بعد برائی کا ظہور ہوگا؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہاں! میں نے عرض کیا۔ پھر اس شر کے بعد بھی خیر ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں لیکن اس خیر میں کچھ کدورت ہوگی (یعنی وہ خیر صاف نہ ہوگی بلکہ اس میں پانی کی طرح ملاوت ہوگی) میں نے عرض کیا کہ کدورت کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا ایسے لوگ ہوں گے جو میرے طریقے کے علاوہ دوسرے طریقے پر چلیں گے۔ میرے طرز زندگی کے علاوہ زندگی کے دوسرے طریقوں کی راہ بتائیں گے ان کے فعل تم اچھے بھی دیکھو گے اور برے بھی۔ میں نے عرض کیا تو کیا اس خیر کے بعد بھی شر ہوگا ارشاد فرمایا ہاں دوزخ کے دروازہ پر کھڑے ہو کر (اپنی طرف) بلانے والے ہوں گے (یعنی دوزخ میں لے جانے والے افعال کی دعوت دیں گے) جو شخص ان دروازوں کی طرف چلنے کے لئے ان کی دعوت قبول کر لے گا اسے دوزخ میں پھینک دیں گے۔ میں نے عرض کیا ہمیں ان کا مزید کچھ تعارف کر ادیجئے ارشاد فرمایا وہ ہم ہی میں سے ہوں گے اور ہماری زبانوں والی (مواعظ و حکم کی) بتیں کریں گے میں نے عرض کیا کہ اگر میری زندگی میں وہ وقت آجائے تو ارشاد فرمائیے میں اس وقت کیا کروں؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امیر سے چھٹے رہنا۔ میں نے عرض کیا اگر مسلمانوں کی جماعت (اسلامی طریقہ پر منظم) نہ ہو اور نہ ان کا کوئی امام ہو تو کیا کروں؟ ارشاد فرمایا تو ان سب فرقوں سے الگ رہنا اگرچہ تھے (آبادی میں جگہ نہ ملنے کے سبب) کسی درخت کی جڑ دانتوں سے کاثنی پڑے اور اسی حال میں تھے

موت آجائے (مطلوب یہ ہے کہ خواہ کیسی ہی تنگی اور خختی برداشت کرنی پڑ جائے ان فرقوں اور پارٹیوں سے الگ رہنا ہی تیری نجات کا سامان ہوگا)۔

مسلم شریف کی ایک دوسری روایت ہے کہ حضرت حذیفہؓ کے سوال پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ایسے رہبر ہوں گے جو میری ہدایت کو قبول نہ کریں گے اور میرے طریقے کو اختیار نہ کریں گے اور عنقریب ان میں سے ایسے لوگ کھڑے ہوں گے جن کے دل انسانی بدن میں ہوتے ہوئے بھی شیطان والے دل ہوں گے۔

مدعیان نبوت، باطل کے داعی اور گمراہی کے رہبر صدیوں سے ہوتے چلے آئے ہیں اور اس دور میں تو ایسے لوگوں کی بہت ہی کثرت ہے جو مخدانہ اور غیر اسلامی نظریوں کی دعوت دیتے ہیں ان کا بصیرت افروز بیان اور روح پرور تقریر یہں قرآن حکیم کی آیات اور سورہ عالم ﷺ کے ارشادات سے پر ہوتی ہیں مگر ان آیات و احادیث سے کفر والحاد کے نظریوں کی تائید کی جاتی ہے اور غصب کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے اسلامی نظریات کو سمجھا تک نہیں وہ چند آیات و احادیث یاد کر کے دوسری پارٹیوں کے نظریات کو خالص اسلامی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک طرف گمراہ کن لیڈروں نے امت کو بر باد کر رکھا ہے۔ دوسری طرف جاہل اور دنیا دار پیروں نے ایمان و اعمال صالح سے کھو دیا ہے۔ پیر کونڈ رانہ دینا، قبروں کی زیارت کرنا، عرسوں کے جلوے دیکھنا اور اولیائے سلف کے ارشادات اور قصوں کو یاد کر لینا اور بیان کر دینا، ہی نجات کا سامان سمجھا جاتا ہے حالانکہ اسلام کی مولیٰ مولیٰ باتوں (روزہ نماز وغیرہ تک سے) پیر بھی بھاگتے ہیں اور مرید بھی اعمال صالح کے اعتبار سے صفر ہی نظر آتے ہیں۔ پھر آیات و احادیث کی وہ دلچسپ

اور من سمجھی تفسیریں گھر رکھی ہیں جن میں سے بعض تو سراسر کفر ہیں جہاں مشتوی مولانا روم کے کچھ اشعار یاد ہوئے حضرت جنید و شبلیؒ کے کچھ ارشادات کا پتہ چلا اور خواجہ اجمیریؒ اور دیگر اولیائے امت کی کچھ کرامتیں معلوم ہوئیں بس کامل و مکمل بن گئے۔

قتل کی اندر ہیر گردی ہو گی

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے خدا کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک دنیا ختم نہ ہوگی جب تک لوگوں پر ایسا دن نہ آجائے کہ قاتل کو یہ علم بھی نہ ہوگا کہ میں نے کیوں قتل کیا اور مقتول یہ نہ جانے گا کہ میں کیوں قتل ہوا کسی نے عرض کیا ایسا کیوں ہوگا؟ ارشاد فرمایا فتنوں کی وجہ سے قتل (بہت ہی زیادہ ہوگا) پھر ارشاد فرمایا (ان فتنوں میں) قتل کرنے والا اور قتل ہونے والے دونوں جہنم میں داخل ہوں گے۔

قاتل کا دوزخی ہوتا تو ظاہر ہے کہ اس نے ناحق دوسرے کا خون کیا اور مقتول کے دوزخی ہونے کی وجہ دوسری حدیث میں یہ آئی ہے کہ چونکہ وہ بھی دوسرے کو قتل کرنے کی فکر میں لگا ہوا تھا اس لئے وہ بھی دوزخی ہوگا۔ (بخاری)۔

آج کل جس قدر قتل واقع ہو رہے ہیں۔ عموماً ان کی وجہ فتنوں کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ قومی عصیت اور فرقہ پرستی کے باعث ہزاروں جانیں ختم ہو جاتی ہیں اور قاتل کو مقتول کی خبر نہیں ہوتی نہ مقتول کو قاتل کا پتہ چلتا ہے۔ دوسرے فرقہ کا جو شخص ہاتھ لگا ختم کر ڈالا اور اس کے ختم کرنے کے لئے بس یہی دلیل کافی ہے کہ وہ قاتل کے فرقہ میں سے نہیں ہے۔ چند انسانوں کے نظروں کی جنگ نے ایسے

ایے آلات جنگ تیار کرنے ہیں کہ شہر کے شہر ذرا دیر میں فنا کے گھاٹ اترتے
چلے جاتے ہیں پھر تعجب یہ ہے کہ ہر فریق یہ بھی کہتا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں
سرور دو عالم ﷺ نے فرقہ دارانہ قتل و قتل کے حق میں فرمایا ہے۔

وَمِنْ قَاتِلٍ تَحْتَ رَايَةً حَمِيمَةً يَغْضُبُ لِعَصْبَيَّةَ أَوْ يَدْعُو لِعَصْبَيَّةَ أَوْ
يَنْصُرُ عَصْبَيَّةَ فَقْتَلَ فَقْتَلَةً جَاهِلِيَّةً وَفِي رَوَايَةِ لِيْسَ مَنَا مِنْ دُعَا إِلَى عَصْبَيَّةَ
وَلِيْسَ مَنَا مِنْ قَاتِلٍ عَصْبَيَّةَ وَلِيْسَ مَنَا مِنْ مَاتَ عَلَى عَصْبَيَّةَ (مشکوٰۃ)
ترجمہ:- جس نے ایے جھنڈے کے نیچے جنگ کی جس کا حق یا باطل
ہونے کا علم نہ ہوا اور عصیت کی ہی خاطر غصہ ہوتا ہوا اور عصیت ہی کے لئے دعوت
دیتا ہوا، عصیت ہی کی مدد کرتا ہو تو اگر وہ مقتول ہوا تو جاہلیت کی موت قتل ہوا۔
دوسری روایت میں ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں جو عصیت کی دعوت دے اور
عصیت کے لئے جنگ کرے اور عصیت پر مر جائے۔

”ایک صحابی نے دریافت کیا یا رسول اللہ عصیت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ظلم
پر اپنی قوم کی مدد کرنا!

امانت اٹھ جائے گی

حضرت حدیفہؓ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے ہمیں دو باتیں بتائی
تھیں۔ جن میں سے ایک دیکھ چکا ہوں اور دوسری کا منتظر ہوں۔ ایک بات تو
آپ ﷺ نے ہمیں یہ بتائی تھی کہ بے شک انسانوں کے دلوں کی گہرائیوں میں
امانت اللهار دیکھ گئی پھر اس کی (تفصیلات) کو لوگ قرآن سے اور رسول اللہ ﷺ
کے طرز عمل سے سیکھ گئے (اس کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں) دوسری بات

آپ نے امانت انھے جانے کے بارے میں بتائی اور ارشاد فرمایا کہ انسان ایک بار سوئے گا تو اس کے دل سے امانت انھالی جائے گی۔ اور بجائے (اصل امانت کے) فقط ایک نقطہ سارہ جائے گا پھر دوبارہ سوئے گا تو باقی امانت بھی انھالی جائے گی۔ اور اس کا اثر نقطہ کی طرح بھی نہ رہے گا بلکہ تھیث کی طرح رہ جائے گا۔ جیسے تم پاؤں پر چنگاری ڈالو اور اس کی وجہ سے ایک آبلہ (چھالا) پڑ جائے جو اور پر سے پھولا ہوا دکھائی دے اور اندر سے کچھ نہ ہو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ لوگ آپس میں معاملات کریں گے تو کوئی امانت ادا کرنے والا نہ ملے گا اور یہ یتذکرے ہوا کریں گے کہ فلاں قبیلہ میں فلاں شخص امانت دار ہے (یعنی تلاش کرنے سے بمشکل کوئی امانت دار ملا کرے گا) اور انسان کی تعریف میں یوں کہا جائے گا کہ فلاں بڑا عقائد (چلتا پر زہ) ہے اور بڑا ہی ظریف ہے اور بڑا ہی قوی ہے۔ حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہ ہوگا۔

یعنی تعریف ایمانداری کی نہیں بلکہ چال بازی کی ہوا کرے گی۔ حضرت خدیفہؓ نے امانتداری کا زمانہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور امانت ختم ہو جانے کا دور آنے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے مگر ہماری آنکھیں آج اس دوسرے زمانہ کو دیکھ رہی ہیں کہ امانت عنقا ہو گئی ہے۔ انسانوں کی عام زندگی کا رخ اس طرف مڑ گیا کہ جہاں تک ہو سکے دوسرے سے لے لو اور جس طرح بھی ہو اس کا حق نہ دو۔ اگر کوئی اپنا حق بھول جائے تو بہت غنیمت سمجھا جاتا ہے اور اسے حق یاد دلانے اور ادا کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی۔ ریل میں مثلاً بغیر نکٹ بیٹھے چلے گئے اور نکٹ چیکر کو پتہ نہ چلا تو ہرگز یہ نہ سوچیں گے کہ ہم خود حق ادا کر دیں بلکہ حق دبا لینے پر خوش ہوں گے کہ آج تو ہم نے مفت میں سفر کیا اور اُنہیں کو (گالی دے کر) کہیں گے کہ دھیلہ بھی نہ دیا۔ یہ بھی واضح رہے کہ امانت داری کا صرف مال ہی

سے تعلق نہیں بلکہ ہر وہ حق جو ہمارے ذمہ کسی کا ہواں کی حق تلفی خیانت میں شامل ہے۔ مثلاً حدیث شریف میں ہے کہ مجلسیں امانت کے ساتھ ہوتی ہیں (یعنی مجلس کی بات نقل کرنا امانت داری کے خلاف ہے) نیز رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص بات کرے اور اسے چھپانے کے لئے ادھر ادھر دیکھتا ہو (کہ کوئی سن تو نہیں رہا) تو وہ بات امانت ہے اور فرمایا کہ جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے اور فرمایا کہ یہ بڑی خیانت ہے کہ تمہارا بھائی تمہیں سچا سمجھ رہا ہو اور تم اس سے جھوٹی بات بیان کر رہے ہو اور فرمایا کہ جو شخص کسی جماعت کا امام بنا اور اس نے صرف اپنے لئے دعا کی (اور مقتدیوں کو دعا میں شامل نہ کیا) تو اس نے خیانت کی اور جس نے بلا اجازت کسی کے گھر میں نظر ڈالی تو اس نے بھی خیانت کی۔ (مشکلۃ)

یعنی یہ تمام باتیں امانت داری کے خلاف ہیں۔ ہر ملک و قوم اور خاندان میں، عقائدی، خوش طبی، چالاکی، دلیری، جسمانی قوت مالداری، زر اندازی وغیرہ تو پائی جاتی ہیں مگر علم حقيقی، شرافت، اخلاق نبوی ﷺ صداقت، سخاوت، رحم، تسلیم، رضا، صبر، تفویض، توکل، ایثار، امانت داری وغیرہ وغیرہ اوصاف حمیدہ کا حاصل کرنا تو درکنار ان کا سمجھا بھی بے ضرورت سا ہو گیا ہے۔

بلند مکانات پر فخر کیا جائے گا اور نالائق حکمران ہوں گے
 حضرت ﷺ اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ کی خدمت میں آ کر ایک صاحب نے دریافت کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہمیں اور تم اس معاملہ میں برابر ہیں (یعنی اس کا جیسے تمہیں پہنچیں مجھے بھی علم نہیں) ان صاحب نے عرض کیا تو اس کی نشانیاں ہی بتا دیجئے۔ آپ

علیہ السلام نے ارشاد فرمایا (اس کی بعض نشانیاں) یہ ہیں کہ عورتیں ایسی لڑکیاں جنے لگیں جو ان (ماڈل) پر حکم چلائیں اور تم دیکھو گے کہ ننگے پیر اور ننگے بدن والے تنگدست اور بکریاں چرانے والے مکانات کی بلندی پر فخر کریں گے۔ (یہ حضرت عمرؓ کی روایت کے الفاظ ہیں) اور حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم ننگے پیر اور ننگے بدن والوں، گونگوں بہروں کو زمین کا بادشاہ دیکھو (اس وقت قیامت قریب ہوگی)۔

مکانات کی بلندی پر فخر کرنا اور ایسی اولاد کا پیدا ہو جانا جو والدین پر حکم چلائیں اس دور میں ہو بہو موجود ہے۔ جو اہل ثروت اور سرمایہ دار ہیں وہ تو بڑی بڑی بلڈنگز بناتے ہیں مگر جن کے پاس کھانے پینے کو بھی نہیں وہ بھی پیٹ کاٹ کاٹ کر اور قرض لے لے کر اپنے گھروں کی عمارت اونچی بنانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ جہاں انسان کے اور اوصاف کی تعریف کی جاتی ہے وہاں عمدہ مکان بیٹھک و بگلا کا مالک ہونا بھی زبان پر آ جاتا ہے۔

ننگے بدن اور ننگے پیر والے بادشاہ تو ابھی موجود نہیں ہوئے آئندہ ضرور ہوں گے جیسے کہ سرور عالم علیہ السلام نے خبر دی ہے البتہ ایسے حکمراں اس وقت بھی موجود ہیں جنہیں ”گونگا“ اور بہرا کہنا بالکل صحیح ہے کیونکہ ان میں نہ حق سننے کی صلاحیت ہے نہ حق کہنے کی قابلیت ہے ان کے مقابل اخبار اور لیڈر ان کو حق پر لانے کی بہت کوشش کرتے ہیں۔ مفہامیں اور آرٹیکل لکھ کر بھی جنہوں نے کیلئے ذرا ش گورز ہوں یا وزراء یا نیچے کے حکمراں ہوں اپنی کج روی کو چھوڑنے کیلئے ذرا ش سے مس نہیں ہوتے۔ ان کی گویائی کا یہ عالم ہے کہ تقریباً اور بیانوں میں اس قدر صاف اور صریح جھوٹ بول جاتے ہیں کہ اخبارات ان کے جھوٹ کی داد دیتے

دیتے تھک جاتے ہیں اور عوام کے دلوں سے اپنے حکمرانوں کی بات کا اعتماد انھا
چلا جاتا ہے۔ پھر نااہل اس قدر ہیں کہ جو ملکہ ان کے سپرد کیا جاتا ہے وزیر و گورنر
ہے اور ہزاروں روپے کی تختواہ بنونے کے شوق میں اسے قبول تو کر لیتے ہیں مگر
ملکہ کی ذمہ داریوں کو پوری طرح انجام دینے سے قاصر رہتے ہیں۔ بخاری شریف
میں ہے کہ رسول خدا ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک دیہاتی نے سوال کیا
کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب امانت داری جاتی رہے تو
قیامت کا انتظار کرنا سائل نے دوبارہ دریافت کیا کہ امانت داری کیسے ضائع
ہوگی؟ ارشاد فرمایا جب عہدے نااہلوں کے سپرد کر دیئے جائیں (جیسے صدارت،
قیادت، حکومت، وزارت، مدرسیں، امامت، خطابت، افتاء وغیرہ) تو قیامت کا
انتظار کرنا (یعنی جب ایسا ہوگا تو امانت داری بھی ضائع کر دی جائے گی اس
ارشاد سے معلوم ہوا کہ نالائق حکمرانوں کے علاوہ دوسرے عہدوں پر فائز ہونے
والے بھی نااہل ہوں گے۔ چنانچہ آج کل موجود ہیں۔ مخدود، فاسق بخیل، بدکار اور
بداخلاق لوگ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں۔ ممبران پارلیمنٹ اس قدر نااہل
ہیں کہ معمولی معمولی باتوں پر بحث کرتے کرتے ہفتواں گزر جاتے ہیں اور کسی اچھے
نتیجے پر نہیں پہنچتے، جو لوگ معزز اور نااہل عقل سمجھے جاتے ہیں، دولت و ثروت کی
وجہ سے انہیں بڑا آدمی کہا جاتا ہے ان کے افعال و کردار بسا اوقات اخبارات میں
ضائع ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس دور کے بڑوں کی بدکرداری کس درجہ بڑھی
ہوئی ہے اور سید عالم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ۔

لا تقوم الساعة حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لکع ابن لکع

(ترمذی)

ترجمہ:- اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک دنیا کا سب سے زیادہ

حضرت ایے شخص کو نہ مل جائے جو خود بھی کمینہ ہوگا اور اس کا باپ بھی کمینہ ہوگا۔
جلد ہی دنیا پر صادق آنے والا ہے۔ اس وقت انہوں میں بلند اخلاق
والے انسان بہت ہی کم ہیں اور وہ وقت موجود ہے جس کا بخاری شریف میں ذکر
ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا۔

یذهب الصالحون الاول فالاول وتبقى حفالة کحفالة السعیر

والتمر لا يباليهم الله بالله.

ترجمہ:- لوگ یکے بعد دیگرے ختم ہوتے جائیں گے اور بیکار لوگ رہ جائیں
گے۔ جیسے ردی جو یا کھجور کا کوڑا رہ جاتا ہے۔ خدا ان کی ذرا پرواہ نہ کرے گا۔
ترمذی شریف میں ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک
قیامت قائم نہ ہوگی جب تک تم اپنے امام (بادشاہ) کو قتل نہ کر دو اور تکواریں لے
کر آپس میں نہ لڑلو اور دنیا کے وارث شریروں نہ بن جائیں۔

**سرخ آندھی اور زلزلے آئیں گے صورتیں مسخ
ہو جائیں گی اور آسمان سے پتھر بر سیں گے**

حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب
مال غیمت کو (گھر کی) دولت سمجھا جانے لگے اور امانت غیمت سمجھ کر دبالتی جایا
کرے اور زکوٰۃ کوتاوان سمجھا جانے لگے اور (دینی) تعلیم دنیا کے لئے حاصل کی
جائے اور انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے اور مال کو ستائے اور دوست کو
قریب کرے اور باپ کو دور کرے مسجدوں میں (دنیا کی باتوں کا) شور ہونے لگے
قبیلہ (خاندان) کے سردار بدین لوگ بن جائیں۔ کمینے قوم کے ذمہ دار ہو جائیں۔
انسان کی عزت اس لئے کی جائے تاکہ وہ شرارت نہ پھیلائے (یعنی خوف کی وجہ

سے) گانے بجانے والی عورتیں اور گانے بجانے کے سامان کی کثرت ہو جائے شرائیں پی جانے لگیں اور بعد میں آنے والے لوگ امت کے پچھلے (نیک لوگوں پر) لعنت کرنے لگیں تو اس زمانہ میں سرخ آندھیوں اور زلزلوں کا انتظار کرو۔ زمین میں ڈھنس جانے اور صورتیں مسخ ہو جانے اور آسمان سے پھر برنسے کے بھی منتظر رہو اور ان عذابوں کے ساتھ دوسری ان نشانیوں کا بھی انتظار کرو جو پے درپے اس طرح ظاہر ہوں گی جیسے کسی لڑکی کا تاگہ کٹوٹ جائے اور پے بے پے دانے گرنے لگیں۔ (ترمذی شریف)

حضرت علیؑ سے بھی یہ روایت ہے اور اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ (مرد) ریشمی لباس پہننے لگیں گے۔

اس حدیث میں جن باتوں کی خبر دی گئی ہے وہ اس وقت موجود ہو چکی ہیں اور ان کے بعض نتیجے (یعنی زلزلے وغیرہ) بھی جا بجا ظاہر ہو رہے ہیں۔ اگر امت کے کارناموں پر ایک سرسری نظر ڈالی جائے اور پھر ان عذابوں پر غور کیا جائے جو زلزلوں وغیرہ کی صورت میں سامنے آ رہے ہیں تو اس حقیقت کا پورا پورا یقین ہو جائے گا کہ جو کچھ مصائب و آفات آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہماری ہی کرتوتوں کا نتیجہ اور بدکاریوں کا بدلہ ہے۔ اس حدیث کی اصل عبارت کے الگ الگ جزو کر کے مزید توضیح کرتا ہوں۔ اتخاذ الغنی دولا (جب غنیمت کا مال گھر کی دولت سمجھا جانے لگے) اس کی شرح کرتے ہوئے صاحب لمعات لکھتے ہیں۔

و المراد في الحديث ان الاغنياء و اصحاب المناصب يتداولون اموال الغنى ويمنعونها من مستحقيها و يستاثرون بحقوق الفقراء.

ترجمہ:- اس فقرہ کا مطلب یہ ہے کہ سرمایہ دار اور عہدہ دار غنیمت کے مال کو (جو عام مسلمانوں اور فقراء مسکین کا حق ہوتا ہے) آپس میں بانٹ کھائیں

اور مسحیین کو دینے کی بجائے فقراء کا حق خود ہی دبا بیٹھیں۔

صاحب لمعات کا آخری جملہ یعنی ویستائزون بحقوق الفقراء (کہ مالدار فقراء کا حق خود ہی دبا بیٹھیں) اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ حدیث شریف میں مال غنیمت بطور مثال کے ذکر فرمایا ہے۔ مطلب صرف یہ ہے کہ دنیا کے بااثر اور سرمایہ دار لوگ فقراء کے حقوق خود ہی ہضم کرنے لگیں گے جیسا کہ آج ہم اوقاف کے بارے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مساجد کے متولی اور مدارس کے مہتمم اور دیگر اوقاف کے منتظم مسحیین کو محروم رکھتے ہیں اور رجسٹر میں غلط حساب لکھ کر رقم خود ہی دبائیتے ہیں اور اب تو یہ رواج بہت ہی چل پڑا ہے کہ ہضم اپنی ذاتی اور دنیوی غرض کے لئے مدارس کھولے جاتے ہیں اور قرآن و حدیث کی خدمت کے نام پر چندہ جمع کر کے عیش پرستی کی جاتی ہے یہ کوئی فرضی افسانہ نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے شاید کوئی فرد ہی ناداوقف ہو۔ والا مانہ مغفماً (اور امانت غنیمت سمجھ کر دبائی جایا کرے۔) یعنی جب کوئی شخص امانت کا مال رکھ دے تو اس میں خیانت کرتے ہوئے ذرا بھی پس و پیش نہ کی جائے اور اسے بالکل اس طرح خرچ کیا جائے جیسے اپنا ہی مال ہو اور میدان جہاد سے بطور غنیمت کے ملا ہو یا باپ دادا کی میراث سے ہاتھ لگا ہو۔ والز کوہ مغفرماً (اور زکوٰۃ کوتاوان سمجھا جانے لگے) یعنی زکوٰۃ دینا نفس پر ایسا گراں اور ناگوار ہوگا جیسے خواہ مخواہ کسی چیز کا تاوان (ذند) دینا پڑ جائے اور بغیر کسی ضرورت کے مال خرچ کرنا پڑے ہمارے زمانہ میں زکوٰۃ کے بارے میں یہی ہو رہا ہے کہ سرمایہ داروں میں زکوٰۃ دینے والے بہت ہی کم ہیں اور دینے والوں میں بھی خوش دلی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تو بہت کم ہیں۔

دوسری حدیثوں میں آپ نے زکوٰۃ نہ دینے کے خاص خاص برے نتائج

بھی ذکر فرمائے ہیں۔ مثلاً ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے کہ جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ روک لیں گے ان سے بارش روک لی جائے گی۔ (حتیٰ کہ) اگر چوپائے (گائے بھینس وغیرہ) نہ ہوں تو بالکل بارش نہ ہو یعنی زکوٰۃ نہ دینے پر بھی جو تھوڑی بہت بارش ہو جاتی ہے وہ انسانوں کے لئے نہیں بلکہ خداوند عالم حیوانات کے لئے بارش بر ساتے ہیں اور ان کے طفیل میں انسانوں کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ بڑے شرم کی بات ہے کہ انسان خود اس لائق نہ رہیں کہ اللہ جل شانہ ان پر رحم فرمائے بلکہ چوپا یوں کے طفیل میں انہیں پانی دیا جائے (و تعلم لغير الدين) اور دینی تعلیم غیر دین (یعنی دنیا) کے لئے حاصل کی جائے آج کل علماء اور حافظوں کا یہی حال ہے کہ دنیاوی جاہ و حشمت، دولت و ثروت، ملازمت اقتدار کی خاطر پڑھتے ہیں۔ چند کوڑیاں ملنے لگیں تو وعظ بھی فرمادیں اور قرآن بھی سکھا دیں۔ تجوید کی مشق بھی کرادیں۔ امامت بھی کر لیں اس کی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے پانچوں وقت مصلیٰ پر نظر بھی آئیں اور اگر ملازمت باقی نہ رہے تو اللہ کے لئے ایک گھنٹہ بھی قرآن و حدیث کا درس دینے کو تیار نہ ہوں اور امامت جاتی رہے تو جماعت تو کیا پورا وقت گزر جائے مگر نماز ہی نہ پڑھیں۔

و اطاع الرجل امراته و عق امه۔

(اور انسان بیوی کی اطاعت کرے اور ماں کو ستائے)

یعنی بیوی کی ہر جائز و ناجائز خواہش پوری کرے اور ماں کی خدمت کی بجائے اسے تکلیف پہنچائے اس کے آرام و راحت کا خیال نہ کرے اس کا کہنا نہ مانے موجودہ دور میں ایسا ہی ہو رہا ہے۔

و ادنیٰ صدیقه واقصی اباہ۔

(اور اپنے دوست کو قریب کرے اور باپ کو دور کرے)

یعنی دوست کی قدر و منزلت تو دل میں ہو مگر باپ کی خدمت اور دلداری کا خیال نہ ہو۔ باپ کی بات پر دوست کی فہمائش و فرمائش مقدم ہو۔ حضرت علیؓ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں وبر صدیقه و جفا اباہ (کہ دوست کے ساتھ سلوک کرے اور باپ پر ظلم کرے) جیسا کہ آج ہم اپنی آنکھوں سے ایسے واقعات دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ماں باپ کی خدمت سے بہت ہی غافل ہیں۔ حالانکہ حدیثوں میں وسعت رزق اور عمر بڑھنے کے لئے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنے کو ارشاد فرمایا گیا ہے۔ تیہنی کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ جس گناہ کو چاہتے ہیں اس کا ارشاد فرمایا گیا ہے۔ لیکن والدین کے ستانے کی سزا منے سے پہلے دنیا ہی میں معاف فرمادیتے ہیں۔

دے دیتے ہیں۔

و ظهرت الا صوات فی المساجد (اور مسجدوں میں شور ہونے لگے)
یعنی مسجدوں کا ادب و احترام دل سے جاتا رہے گا اور شور و شغب، جیخ و پکار سے گوناخا کریں گی۔ عموماً آج کل مساجد کے ساتھ مسلمانوں کا یہی برتابہ ہے۔

وساد القبیلۃ فاسقہم و کان زعیم القوم ارذلهم

(بدوین خاندان کے سردار اور کمینے قوم کے ذمہ دار بن جائیں)

باکل یہی آج کل ہورہا ہے کہ دین دار اور متqi انسان کو خاندان کی باگ ڈورنیں سونپی جاتی بلکہ بدین لوگ خاندان کے سردار اور بڑے سمجھے جاتے ہیں۔ جب کوئی جماعت یا پارٹی بنے تو گواں کے اغراض و مقاصد محض دینی اور اسلامی بنائے جاتے ہوں اور نام بھی خالص مذہبی ہو مگر اس کا صدر و سیکرٹری ایسے شخص کو چنا جاتا ہے جس میں دینداری اور پرہیزگاری خدا ترسی، رحم، زہد، دیانت، امانت وغیرہ صفات حسنہ نام کو بھی نہ ہوں۔

(۱) مسلم شریف۔

واکرم الرجل مخاففہ شرہ (اور انسان کی عزت اس لئے کی جائے کہ وہ شرارت نہ پھیلائے) یعنی ادب و احترام، تعظیم و اکرام دل میں تونہ ہو لیکن ظاہری طور پر اس لئے تعظیم سے پیش آنے کا رواج ہو جائے کہ اگر فلاں شخص کو "آداب عرض" نہ کریں تو کوئی شرارت پھیلا دے گا اور اپنے اقتدار اور روپے پیسے کے غرور میں نہ جانے کس وقت کون سی مصیبۃ کھڑی کر دے۔ اس وقت ہو بہو ایسا ہی ہو رہا ہے کہ جن کی سامنے عزت کی جاتی ہے۔ پیچھے ان پر گالیوں کی بوچھاڑ کی جاتی ہے۔ شریروں کے ہاتھ میں اقتدار آنے اور مال و دولت ان کے پاس ہونے اور عوام کے اس قدر گر جانے کے باعث کہ کسی با اقتدار شخص کو شریر سمجھتے ہوئے بھی بجائے برائیوں سے روکنے اور اس کے سامنے حق کہنے کے عزت سے پیش آنے لگیں یہ اکرم الرجل مخاففہ شرہ کی پیشین گوئی صادق آتی ہے۔

و ظہرت القینات و المعاذف (گانے بجانے والی عورتیں اور گانے بجانے کے سامان رانج ہو جائیں) جیسا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں کچھ پیسے پاس ہوتے ہیں یا معقول ملازمت مل جاتی ہے تو سب سے پہلے لہو و لعب اور گانے بجانے کا سامان ہی خریدنا ہی ضروری سمجھا جاتا ہے۔ گھر میں گراموفون کا ہونا ترقی کا معیار اور آسودگی کی علامت بن چکا ہے۔ گراموفون نج رہا ہے اور سب چھوٹے بڑے مل کر عشقیہ غزلیں، فخش گانے، گندہ مذاق سنتے ہیں، بیاہ شادی اور دوسرا تقریب میں باجے اور گانے کا انتظام نہ ہو تو اس تقریب کو بد مزہ اور پھیکا سمجھا جاتا ہے، بزرگوں کے مزارات پر عرس کے نام سے اجتماع ہوتا ہے اور گانے بجانے کا سامان مہیا کر کے تفریح اڑائی جاتی ہے۔ طوائف کے ناج گانے میں مشغول ہو کر نماز کی بھی فرصت نہیں ہوتی جن بزرگوں کی زندگی خلاف شرع چیزوں کو منانے کے لئے وقف تھی ان کے مزارات کھیل تماشوں ناج اور گانوں

کے اذے بنے ہوئے ہیں۔ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھینچتی اگاتا ہے۔ (بیہقی)

فرمایا نبی اکرم ﷺ نے کہ میرے رب نے مجھے تمام جہانوں کیلئے رحمت اور ہادی بنا کر بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ گانے بجانے کا سامان اور بت اور صلیب (جسے عیسائی پوچھتے ہیں) اور جاہلیت کی چیزوں کو مٹا دوں۔ (رواه احمد)
 آج کل گانا بجانا زندگی کا اہم جزو بنا ہوا ہے اور ازدواجی زندگی کا معیار بھی اس قدر بدل گیا ہے کہ شوہرو بیوی کے انتخاب کے لئے دیندار اور خدا ترس ہونا نہیں دیکھا جاتا بلکہ مرد ناز نہیں رقادہ ڈھونڈتا ہے اور بیوی کو ہیر و درکار ہوتا ہے۔
 مال و وزر کی ہوس میں شریف زادیاں خاندانی عزت کو خاک میں ملا کر اسٹیچ پر آ رہی ہیں۔ کمپنی کے ایجنس اور دلال بہلا پھسلا کر انہیں بتابہ کرتے ہیں۔ ایک ایکٹریں اپنے حسن فروشی کے جنون میں ہروہ حرکت کر گزرتی ہے جو نہیں کرنی چاہئے تھی۔
 جب پوسٹروں اور اخباروں میں ان کا تعارف کرایا جاتا ہے اور اس کے رقص کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کا دل اور بڑھتا ہے اور بے حیائی کے اور زیادہ مراتب طے کرتی چلی جاتی ہے۔ ضرورت زمانہ کو دیکھ کر اب تو بعض اسکولوں میں بھی رقص کی باقاعدہ تعلیم جاری ہو گئی ہے۔

ریڈیو گھر اچھی باتیں اور عمدہ اخلاق کی تعلیمات پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے مگر اس میں بھی اچھی تقریریں بھی بھی ہو جاتی ہیں اور گانے ہر وقت ہوتے رہتے ہیں۔ افسوس کہ اس دور کے ذمہ دار انسان بھی اصلاحی پروگرام کو لے کر آگے نہیں بڑھتے اور مزید تعجب یہ ہے کہ (جو اسلامی اسٹیٹ) کھلاتی ہیں وہاں بھی گانے بجانے، لہو و لعب کے آلات، تھیٹر سینما پر کوئی پابندی نہیں ہے۔
 جب آنحضرت ﷺ نے وظہرت القینات و المعاذف کا جملہ ارشاد

فرمایا ہوگا اس کا وہ تفصیلی نقشہ حضرات صحابہؓ کے سامنے نہ آیا ہوگا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ قربان جائیے اس ہادی و رہنماء کے جس نے سائز ہے تیرہ سو برس پہلے انسانوں کی موجودہ خرابیوں سے باخبر فرمایا تھا۔ و شربت الخمور (اور شرابیں پی جانے لگیں گی) اس کی تشریع کی ضرورت نہیں۔ سب جانتے ہیں کہ عموماً شراب پی جاتی ہے حتیٰ کہ ممالک اسلامیہ میں بھی اس کا اسی طرح رواج ہے جس طرح غیر اسلامی ملکوں میں ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ و لعن آخر ہذہ الامة اولہا (اور بعد میں آنے والے لوگ امت کے پچھلے) (یہ) لوگوں پر لعنت کرنے لگیں (پیشین گوئی..... بھی اس وقت کے مسلمانوں پر صادق آ رہی ہے حتیٰ کہ حضرات صحابہؓ بھی دور حاضر کے مسلمان کھلانے والوں کے نشانوں سے محفوظ نہیں۔

نماز پڑھانے سے گریز کیا جائے گا

حضرت سلامہؓ فرماتی ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً موت کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی بھی ہے کہ مسجد والے (اماٹ کیلئے) ایک دوسرے کو دھکلیں گے (اور) کوئی امام نہ پائیں گے جو انہیں نماز پڑھائے۔ (مشکوٰۃ شریف) مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے نمازی جمع ہوں گے اور ااماٹ کے لئے حاضرین میں سے کوئی بھی تیار نہ ہو گا جس سے بھی نماز پڑھانے کے لئے درخواست کی جائے وہ کہے گا کہ میں تو اس لاائق نہیں ہوں فلاں صاحب پڑھائیں گے حتیٰ کہ کوئی بھی امام نہ بنے گا اور بے جماعت پڑھ کر چل دیں گے۔ علامہ طیبی اور صاحب مرقاۃ لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہو گی کہ ان میں کوئی بھی اس لاائق نہ ہو گا جو نماز کے صحیح اور فاسد ہونے کے مسائل سے واقف ہو، ان حضرات نے جو وجہ بتائی ہے بالکل درست ہے اور آج

کل اکثر دیہات میں ایسا ہوتا ہے کہ صرف اس لئے بے جماعت نماز پڑھ لیتے ہیں کہ ان میں کوئی مسائل جانے والا نہیں ہوتا۔ لیکن بندہ کے نزدیک آج کل نماز پڑھانے سے انکار کرنے کا ایک اور بھی سبب ہے اور وہ یہ کہ بعض جگہ پڑھنے لکھے اور مسائل سے واقف بھی موجود ہوتے ہیں مگر انہیں تواضع کا جوش ہوتا ہے اور جس قدر ان سے نماز پڑھانے کے لئے اصرار کیا جاتا ہے اسی قدر جوش تواضع میں انکار کرتے جاتے ہیں اور بعض حضرات نماز پڑھانے کا عذر یہ بیان کرتے ہیں کہ مقتدیوں کی ذمہ داری بہت ہے۔ ہم اسے برداشت نہیں کرتے، اگر شریعت کے نزدیک یہ کوئی عذر ہوتا تو ابتدائے اسلام سے آج تک حضرات سلف نماز پڑھانے سے بچتے رہتے اور سلسلہ جماعت ختم ہی ہو جاتا کیونکہ وہ حضرات اس زمانہ کے لوگوں سے بہت زیادہ آخرت کے فکر مند اور خدا سے ڈرنے والے تھے۔ شریعت مطہرہ نے نماز کے صحیح اور فاسد ہونے کے جو احکام بتائے ہیں۔ ان کا لحاظ رکھتے ہوئے نماز پڑھادیتے تھے۔ آگے قبول اور عدم قبول اللہ رب العزت کے ہاتھ ہے، ہم تو اس کے مکلف ہیں کہ ارکان و شروط کا پورا دھیان کر لیں۔

ننگی عورتیں مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ دوزخیوں کے دو گروہ پیدا ہونے والے ہیں جنمیں میں نے نہیں دیکھا (کیونکہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے) پھر اس کی تشریع کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک گروہ تو ایسا پیدا ہو گا جو بیلوں کی دموم کی طرح (لبے لبے) کوڑے لئے پھریں گے اور ان سے لوگوں کو مارا کریں گے صح شام اللہ کے غصہ اور ناراضگی ولعنت میں پھرا کریں گے۔ دوسرا گروہ الیکی عورتوں کا پیدا ہو گا جو کپڑے پہنے ہوئے بھی ننگی ہی ہوں گی

(غیر مردوں کو) اپنی طرف مائل کریں گی اور خود بھی (ان کی طرف مائل ہوں گی) ان کے سراوتوں کی بھلی ہوئی پشتوں کی طرح ہوں گے۔ نہ جنت میں داخل ہوں گی نہ جنت کی خوبیوں ناگھیں گی۔ حالانکہ بلاشک و شبہ اس کی خوبیوں تی اتنی دور سے آتی ہے۔

اس حدیث میں دو پیشین گوئیاں مذکور ہیں ایک ظالم گروہ کے بارے میں ہے کہ کچھ لوگ کوڑے لئے پھریں گے اور لوگوں کو ان سے پیٹا کریں گے یعنی اقتدار کے نشہ میں ضعیفوں اور بے کسوں پر ظلم کریں گے اور بلا وجہ خواہ مخواہ عام پلک کوستائیں گے۔

دوسری پیشین گوئی عورتوں کے حق میں ارشاد فرمائی ہے کہ آئندہ زمانہ میں ایسی عورتیں موجود ہوں گی جو کپڑے پہننے ہوئے ہوں گی لیکن پھر بھی ننگی ہوں گی یعنی اس قدر باریک کپڑے پہنیں گی کہ ان کے پہننے سے جسم چھپانے کا فائدہ حاصل نہ ہو گا یا کپڑا باریک تو نہ ہو گا مگر چست ہونے اور بدن کی ساخت پر کس جانے کی وجہ سے اس کا پہننا اور نہ پہننا برابر ہو گا اور آج کل تو چست ہونے کے ساتھ بدن کا ہر رنگ ہونا بھی داخل فیشن ہو چکا ہے۔ چنانچہ گندی رنگ کے ایسے موزے داخل لباس ہو چکے ہیں جن کا پیر سے اوپر کا حصہ پنڈلی پر کھال کی طرح چپکا ہوا ہوتا ہے۔

بدن پر کپڑا ہونے اور اس کے باوجود بھی ننگا ہونے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ بدن پر صرف تھوڑا سا کپڑا اور بدن کا بیشتر حصہ اور خصوصاً وہ اعضاء کھلے رہیں جن کو با حیاء عورتیں غیر مردوں سے چھپاتی ہیں، جیسا کہ یورپ اور ایشیاء کے بعض شہروں میں (بیمی، رنگو، سنگا پور وغیرہ) میں ایسا لباس پہننے کا رواج ہے کہ

صرف گھننوں تک قیص ہوتی ہے۔ آستینیں موئڑھے سے صرف دو چار انچ ہی بڑھی ہوئی ہوتی ہیں۔ پنڈلیاں بالکل نگلی ہوتی ہیں اور سر بھی دوپٹہ سے خالی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ عورتیں غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود ان کی طرف مائل ہوں گی۔ یعنی نگاہ ہونے کا رواج مغلسی کی وجہ سے نہ ہو گا بلکہ ان کی نیت مردوں کو بدن دکھانا اور ان کا دل لبھانا مقصود ہو گا اور لبھانے کا دوسرا طریقہ یہ اختیار کریں گی کہ اپنے سروں کو (جو دوپٹوں سے خالی ہوں گے) منکا کر چلیں گی جس طرح اونٹ کی پشت کا بالائی حصہ تیز رفتاری کے وقت زمین کی جانب جھکا کرتا ہے۔ اونٹ کی پشت سے تشبیہ دینے سے یہ بھی بتایا کہ بال پھلا پھلا کر اپنے سروں کو موٹا کریں گی پھر فرمایا کہ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی بلکہ اس کی خوبصورت نہ سو نگہ سکیں گی۔

شریعت اسلامیہ نے زنا کاری سے بھی روکا ہے اور ایسی چیزوں سے بھی روکا ہے جو زنا کی طرف بلانے والی ہیں حتیٰ کہ اس کو بھی زنا فرمایا ہے کہ کوئی عورت تیز خوبصورگاً کر مردوں پر اس لئے گزرے کہ مرد اس کی خوبصورت نگہ لیں۔
(ترغیب)

مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ ہادی عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے اور کانوں کا زنا سنتا ہے اور زبان کا زنا بولنا ہے اور ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے اور پیروں کا زنا چل کر جانا ہے۔

حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ عورت چھپی ہوئی چیز ہے جب باہر نکلتی ہے تو اسے شیطان مکننے لگتا ہے۔ (مشکوہ)
بیہقی کی ایک روایت میں ہے کہ جو نامحرم پر نظر ڈالے اور جو اپنے اوپر نامحرم کی خواہش اور تمنا کرے اس پر خدا کی لعنت ہے۔

حضرت ابو امامہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان (بلا اختیار و ارادہ) ایک مرتبہ کسی عورت کا حسن دیکھ لے (یعنی اچانک بغیر ارادہ کے اس کی نظر پڑ جائے اور پھر اس نظر کو باقی نہ رکھ بلکہ اپنی آنکھ بند کر لے تو خداوند (اس کے بدله) اسے ایسی عبادت نصیب فرمائے گا جس کی حلاوت (مٹھاں) محسوس کرے گا۔ (احمد)۔

بظاہر دوستی اور دل میں دشمنی رکھنے والے پیدا ہوں گے

حضرت معاذ بن جبلؓ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ آخر زمانہ میں ایسے لوگ آئیں گے جو ظاہر میں بھائی ہوں گے اور باطن میں دشمن ہوں گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ ﷺ ایسا کیونکر ہو گا؟ ارشاد فرمایا کہ بعض کو بعض سے لائق ہو گا اور بعض کو بعض سے خوف۔ اس لئے ظاہر دوست اور پوشیدہ دشمن ہوں گے۔ (احمد)

آج کل یہ مرض بہت عام ہو گیا ہے کہ کسی کے سامنے تو دوستانہ تعلقات ظاہر کرتے ہیں اور پیچھے پیچھے دشمنوں کی طرح نہ مت اور برائی کرتے ہیں اور اس کا سبب حسب ارشاد سید عالم ﷺ یہی ہے کہ اپنی کسی غرض اور ضرورت پوری ہونے کے لائق میں دوستی اور تعلقات ظاہر کرتے ہیں اور زبانی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں۔ حالانکہ دل میں اسی شخص سے نفرت اور بعض ہی ہوتا ہے۔ اس مذموم حرکت کا دوسرا سبب یہ ارشاد فرمایا کہ دوسرے خوف یعنی اس کے اقتدار و جاہ وحشت کے باعث خوب تعریف کریں گے حالانکہ دل اس کی برا نیوں سے پر ہو گا اور سینہ میں بعض کی آگ بھڑک رہی ہو گی۔

ہمارے زمانہ میں مخالف پارٹیوں کے لیڈروں کے حق میں یہی طریقہ اختیار

کر لیا گیا ہے کہ دل میں تو ان کی جانب سے خوب کوٹ کر بغرض بھرا ہوتا ہے اور جب ان میں سے کوئی مر جاتا ہے تو اس کی تعریف کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔

ریا کار عابد اور پچھے روزہ دار ہوں گے

حضرت شداد بن اوسمؑ ایک مرتبہ رونے لگے۔ دریافت کیا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ مجھے رسول اللہ ﷺ کا ارشاد یاد آگیا ہے میں نے خود سنایا۔ اس نے مجھے رلا دیا اور ارشاد یہ ہے کہ آپ نے فرمایا۔ ”مجھے اپنی امت کے متعلق سب سے زیادہ شرک اور چھپی ہوئی شہوت کا خوف ہے۔

میں نے (تعجب سے) عرض کیا۔ کیا آپ کے بعد آپ کی امت شرک کرنے لگے گی؟ ارشاد فرمایا خبردار! وہ (کسی) آفتاب و ماہتاب اور پھر و بت کونہ پوچھیں گے بلکہ (ان کا شرک یہ ہو گا کہ) اپنے اعمال کا دکھاوا کریں گے اور چھپی ہوئی شہوت یہ ہو گی کہ ان میں سے ایک شخص روزہ کی نیت کرے گا اور پھر خواہشات نفس میں سے کسی خواہش کے پیش آجائے کی وجہ سے روزہ چھوڑ دے گا۔ (احمد و نیقی)

حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ ہم (پچھے صحابہؓ بیٹھے ہوئے) دجال کا ذکر کر رہے تھے کہ اسی اثناء میں آنحضرت ﷺ بھی تشریف لے آئے اور ارشاد فرمایا کہ تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں جو میرے نزدیک تمہارے حق میں دجال سے بھی زیادہ خطرہ کی چیز ہے؟ ہم نے عرض کیا جی ارشاد فرمائیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ شرک خنی ہے (جس کی مثال یہ ہے کہ) انسان نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہو اور کسی آدمی کے دیکھنے کی وجہ سے نماز کو بڑھا دیوے۔ (مشکوٰۃ)

حضرت محمود بن لبیدؓ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے

تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر (چھوٹے شرک) کا خطرہ ہے۔ صحابہؓ نے عرض کیا
شرک اصغر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا وکھوا (احمد)۔

ریا کار آج کل بکثرت موجود ہیں جو حسب ارشاد ﷺ شرک اصغر میں بتا
ہیں اعادنا اللہ منہ اس موضوع پر احقر کا ایک رسالہ اخلاص نیت شائع ہو چکا
ہے۔ جس میں اخلاص میں صدق اور ریا کی تفصیل درج ہے علاوہ ازیں موجودہ
دور کے ریا کاروں کے حال۔ ریا کی مذمت، ریا کاروں کی سزا وغیرہ عنوانات پر
مفصل بحث کی ہے۔

ظالم کو ظالم کہنا، نیکیوں کی راہ بتانا، اور برائیوں

سے روکنا چھوٹ جائے گا

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے (مجھ سے)
فرمایا کہ جب تو میری امت کو اس حال میں دیکھے گا کہ ظالم کو ظالم کہنے سے ڈرنے
لگیں تو ان سے رخصت ہو جانا (یعنی ان کی مخلوقوں اور محفلوں میں شرکت نہ کرنا)
(رواه الحاکم)۔

حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ
لا اله الا اللہ اپنے پڑھنے والوں کو اس وقت تک نفع دیتا رہے گا اور ان سے
عذاب و بلا کو دفع کرتا رہے گا جب تک اس کے حق سے لا پرواہی نہ کریں۔ صحابہؓ
نے عرض کیا اس کے حق سے لا پرواہی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ارشاد فرمایا اس
کے حق کی لا پرواہی یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانیاں کھلے طور پر ہونے لگیں اور ان سے
روکانہ جائے اور انہیں بند نہ کیا جائے تر غیب تفسیر درمنثور میں ایک حدیث نقل کی

ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا۔

”جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی وقعت ان کے دل سے نکل جائے گی اور جب امر بالمعروف (نیکیوں کی راہ بتانا) اور نبی عن المنکر (برائیوں سے روکنا) چھوڑ دے گی تو وحی کی برکت سے محروم ہو جائے گی اور جب آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگے گی تو اللہ کی نظر سے گر جائے گی۔“
یہ وہی وقت ہے جس کی مخبر صادق ﷺ نے خبر دی تھی، لا اله الا الله کی بہت سی تسبیحیں پڑھی جاتی ہیں مگر لا اله الا الله نفع نہیں دیتا کیونکہ خدا کی نافرمانیاں حکم کھلا ہو رہی ہیں اور انہیں بند کرنا تو درکار انہیں براہی نہیں سمجھا جاتا۔ فریضہ تبلیغ (امر بالمعروف نبی عن المنکر) چھوڑ دینے کی وجہ سے وحی کی برکت سے محروم ہیں۔ وحی یعنی خدا کا کلام قرآن حکیم سینوں میں موجود ہے دو کانوں میں رکھا ہے الماریوں میں محفوظ ہے لیکن اس کی برکت (یعنی تقویٰ اور پرہیز گاری) سے عام مسلمان اس لئے محروم ہیں کہ اس کے احکام کی تبلیغ کرنا چھوڑ بیٹھے ہیں۔ گالیاں بکنے کی بہت کثرت ہو گئی ہے اور اللہ کی نظر سے گر کر ذلت و مصیبت کے گڑھے میں پہنچ چکے ہیں۔ دعائیں کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتیں۔ مصیبتوں سے چھکا را چاہتے ہیں مگر غلامی نہیں پاتے اور اپنے مقصد میں بھلا کیونکر کامیاب ہوں جب کہ سرور عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے یہ ضروری ہے اور پھر ضروری ہے کہ نیکیوں کا حکم کرتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو ورنہ جلد ہی تم سب پر خدا عذاب بھیج گا پھر اس وقت خدا سے تم بے شک دعا بھی کرو گے لیکن وہ قبول نہ کرے گا۔ (ترمذی شریف)۔

حضرت جریر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کسی قوم میں اگر ایک شخص (بھی) گناہ کرنے والا ہو اور وہ اسے روکنے پر قدرت

رکھتے ہوئے بھی نہ روکیں تو خدا ان پر مرنے سے پہلے ضرور اپنا عذاب بھیجے گا۔
(مشکوٰۃ شریف)۔

ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ انسانوں کے اعمال راحت و چین مصیبہ اور عذاب کے تھم ہیں اچھے اعمال سے نعمتوں اور عیش و آرام کے پودے نکلتے ہیں اور برے اعمال سے آفات و بلیات کے دروازے کھلتے ہیں۔

احادیث بالا سے صراحةً معلوم ہو رہا ہے کہ فریضہ تبلیغ کے چھوڑنے سے عام عذاب آتا ہے۔ بارگاہ خداوندی سے دعا رد کردی جاتی ہے وحی کی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک دوسرے کو گالی دینا اللہ جل شانہ کی نظر سے گر جانے کا سبب ہے۔ ان ارشادات کے علاوہ اور بھی بے شمار حدیثوں میں خاص خاص اعمال کے خاص نتیجوں کا ذکر ہے جن میں سے بعض کا اختصار کے ساتھ ذکر کرتا ہوں۔

۱۔ زنا، فحش اور بدکاری، قحط، ذلت اور تنگدستی کا سبب ہیں۔ زنا سے موت کی کثرت ہوتی ہے اور بے حیائی کے کاموں میں پڑنے سے طاعون اور ایسے ایسے مرض ظاہر ہوتے ہیں جو باپ داؤں میں کبھی نہ ہوئے تھے۔ (ترغیب)

۲۔ جس قوم میں رشوت کا لین دین ہو یا خیانت کرتی ہو، ان کے دلوں پر رعب چھا جاتا ہے۔ (مشکوٰۃ)

۳۔ جو لوگ زکوٰۃ نہ دیں ان سے بارش روک لی جاتی ہے۔ (ترغیب)

۴۔ ناپ تول میں کمی کرنے سے رزق بند کر دیا جاتا ہے۔ قحط اور سخت محنت میں بیٹلا ہوتے ہیں اور ظالم بادشاہ مسلط ہوتے ہیں اور فیصلوں میں ظلم کرنے کے سبب قتل کی کثرت ہوتی ہے۔ بد عہدی کرنے سے سر پر دشمن مسلط کر دیا جاتا ہے۔ (مشکوٰۃ شریف)

فرمایا اس امت کے آخر میں ایک ایسی جماعت ہوگی جنہیں امت کے پہلے مسلمانوں جیسا اجر ملے گا۔ وہ بھلا سیوں کا حکم کریں گے اور برا سیوں سے روکیں گے اور فتنے فساد والوں سے جنگ کریں گے۔ (بیہقی)

انہیں اس قدر عظیم الشان اجر اس وجہ سے ملے گا کہ وہ اس کفر والخاد کے دور میں جب کہ حق بات کہنا بے حد مشکل ہو گا حق بات کہیں گے اور برا سیوں کے مٹانے کی کوشش کریں گے۔

نبی اکرم ﷺ سے بے انتہا محبت کرنے والے پیدا ہوں گے

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت رکھنے والے وہ بھی ہوں گے جو یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم اپنا مال اور کتبہ قربان کر کے اپنے رسول کو دیکھ لیتے۔

(مشکوٰۃ)

یعنی میں تو موجود نہ ہوں گا مگر انہیں مجھ سے اس قدر محبت ہوگی کہ صرف میرے دیکھنے کے لئے اپنا سارا مال اور گھر یا رکبہ قبلیہ قربان کرنے کے لئے تیار ہوں گے۔

درندے وغیرہ انسانوں سے بات کریں گے

حضرت ابوسعیدؓ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم نیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک درندے انسانوں سے نہ بولیں گے اور جب تک انسان کے کوڑے کا اگلا حصہ اور جوتی کا تمہارے اس سے ہم کلام نہ ہوں

گے اور جب تک اس کی ران اسے یہ نہ بتا دے گی کہ تیرے پچھے تیرے گھروالوں نے یہ کام کیا ہے۔ یعنی قیامت سے پہلے ایسا ضرور ہو جانا ہے۔ (ترمذی شریف)

صرف مال ہی کام دے گا

حضرت مقدام بن معد یکر ب فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ صرف دینار و درہم ہی نفع دیں گے۔ (احمد) صاحب لمعات اس ارشاد کی تشریع میں لکھتے ہیں۔

اى لا ينفع الناس الا الکسب يستحفظهم عن الوقوع فى الحرام ترجمہ:- یعنی اس زمانہ میں حلال کما کر ہی دین محفوظ رکھ سکیں گے اور کسب حلال ہی انہیں حرام سے بچائے گا۔

مطلوب یہ ہے کہ دین میں اتنے کمزور ہوں گے کہ اگر حلال نہ ملے تو تکلیف اور بھوک برداشت کر کے حرام سے نہ بچیں گے بلکہ حرام میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اگر کسی کے پاس حلال مال ہو گا تو اسے حرام سے بچائے گا۔

رقم المحرف کی رائے یہ ہے کہ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ہر معاملہ میں مال ہی سے کام چلے گا۔ دین بھی مال ہی کے ذریعہ محفوظ رکھ سکیں گے اور دنیا کے معاملات میں بھی مال ہی کو دیکھا جائے گا۔ کس پارٹی کے صدر اور سیکریٹری کے انتخاب میں بھی سرمایہ دار ہی کی پوچھ ہوگی۔ قوم و خاندان کے چودھری بھی صاحب ثروت ہی ہوں گے۔ نکاح کے لئے مالدار مرد کی تلاش ہوگی۔ غرض کہ ہر معاملہ میں مال دیکھا جائے گا اور مالدار ہی کو آگے رکھیں گے۔ جیسا کہ ہمارے موجودہ زمانے میں ہو ہی رہا ہے کہ مالدار ہونا شرافت اور بڑائی کی دلیل بن گیا ہے اور فقر و تندستی اگرچہ اختیاری نہیں لیکن پھر بھی عیب سمجھی جانے لگی ہے روپیہ

پیسہ کی ایسی عظمت دلوں میں بیٹھ چکی ہے کہ مالدار ہی کو بڑا اور عزت آبرو والا سمجھا جاتا ہے اور اسی حقیقت کے پیش نظر تنگدست اور مفلس بھی تنگدستی کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں افسوس کہ جونقر مومن کی امتیازی شان تھی وہ عیب بن کر رہ گئی اور راس سے بڑھ کی یہ کہ فقر کی وجہ سے بہت سے لوگ ایمان سے پھر رہے ہیں اور سرور عالم ﷺ کے ارشاد۔

کاد الفقر ان یکون کفرا

ترجمہ:- فقر کفر بن جانے کے قریب ہے (مشکوٰۃ)

کامفہوم خوب سمجھ میں آ رہا ہے۔

حضرت سفیان ثوریؓ فرماتے تھے کہ پہلے زمانے میں نیک لوگوں کے ماحول میں مال کو ناپنڈ کیا جاتا تھا لیکن آج مال مومن کی ڈھال ہے۔ اگر مال نہ ہو تو یہ مالدار ہمارا (یعنی عالموں کا) رومال بنالیں یعنی جس طرح رومال کو میل صاف کر کے ڈال دیتے ہیں اسی طرح تنگدست عالم کو مالدار ڈیل سمجھنے لگیں۔ پھر فرمایا کہ جس کے پاس مال ہوا سے چاہئے کہ مناسب طریقہ پر خرچ کرے اور بے فکری سے نہ اڑائے کیونکہ یہ وہ دور ہے کہ اگر حاجت پیش آئے گی تو سب سے پہلے دین کو بر باد کرے گا۔ (مشکوٰۃ)

چاندی سونے کے ستون ظاہر ہوں گے

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا ہے زمین اپنے اندر سے ستونوں کی طرح سونے چاندی کے لمبے لمبے نکڑے اگل دے گی۔ جس کی وجہ سے مال بے قیمت ہو جائے گا اور قاتل آ کر کہے گا کہ (افسوس) اس (بے حقیقت اور بے قیمت چیز) کی وجہ سے میں نے کسی کی جان لی۔ اور (مال کی

وجہ سے) قطع رحمی کرنے والا کہے گا کہ (افسوس) اس کی وجہ سے میں نے قطع رحمی کی اور چور آکر کہے گا کہ (افسوس) اس کی وجہ سے میرا ہاتھ کا ناگیا یہ کہہ کر اسے چھوڑ دیں گے اور اس میں سے کچھ بھی نہ لیں گے۔

دوسری حدیث میں ہے کہ قیامت سے پہلے وہ وقت آئے گا کہ نہر فرات کے اندر سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا اور اس کو قبضانے کے لئے لوگ جنگ کریں گے جس کے نتیجے میں ۹۹ نیصدی انسان مر جائیں گے جن میں سے ہر ایک کا یہ گمان ہوگا کہ شاید میں ہی نج جاؤں۔ (مسلم)۔

بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے جو حضرت ابو ہریرہؓ سے مردی ہے کہ فرات سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا جو شخص وہاں موجود ہو اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ (مشکلاۃ شریف)۔

موت کی تمنا کی جائے گی

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ دنیا کے ختم ہونے سے پہلے ایسا دور ضرور گزرے گا کہ قبر پر انسان کا گزر ہوگا اور وہ قبر پر لوث کر کہے گا کہ کاش میں اس قبر والے کی جگہ ہوتا اور دین کی وجہ سے یہ تمنا نہ ہوگی کہ (بد دینی کی فضائے گھبرا کر ایسا کرے گا) بلکہ (دنیاوی) مصیبت میں گرفتار ہوگا (مسلم)۔

ف یعنی اس زمانہ میں بد دینی اور فسق و فجور سے گھبرانے والے تو کہاں ہوں گے البتہ دنیاوی پریشانیوں اور بلاوں میں پھنس کر مرنے کو زندگی پر ترجیح دیں گے۔ ایسے حالات ہمارے اس زمانے میں موجود ہوتے جا رہے ہیں اور پریشانی کی وجہ سے یوں کہنے والے اب بھی موجود ہیں کہ ”اس زندگی سے موت ہی بھلی ہے۔“

مال کی کثرت ہوگی

حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا ہے کہ آخر زمانہ میں ایک ایسا مسلمان بادشاہ ہوگا جو لوپ بھر بھر کے مال تقسیم کرے گا اور مال کو شمارنہ کرے گا۔ (مسلم)۔

یعنی اس وقت مال اس قدر کثیر ہوگا کہ تقسیم کرتے وقت بانٹنے والا کم اور زیادہ کا خیال نہ کرے گا اور مال اس قدر زیادہ ہوگا کہ اس کا شمار کرنا دشوار ہوگا۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تمہارے اندر مال کی اس قدر کثرت نہ ہو جائے کہ مالدار کو اس کا رخ ہوگا کہ کاش کوئی میرا صدقہ قبول کر لیتا۔ حضرت عوف بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے رسول خدا ﷺ نے قیامت کی چھ نشانیاں ذکر فرمائی ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ مال کی اس قدر کثرت ہوگی کہ انسان کو سو دینار (سونے کی اشرفیاں) دیئے جائیں گے تو (انہیں کم سمجھ کر) ناراض ہو جائے گا۔ (بخاری)

بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا صدقہ کرو کیونکہ تم پر ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان صدقہ لے کر چلے گا کہ (کسی کو دیدوں) اور کوئی قبول کرنے والا نہ ملے گا جسے دینا چاہے گا وہ کہنے گا کہ تو کل لے آتا تو میں ضرور قبول کر لیتا۔ آج تو مجھے اس کی ضرورت نہیں (مشکوٰۃ)۔

جھوٹے نبی ہوں گے

حضرت ثوبانؓ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ جب میری

امت میں تکوار رکھ دی جائے گی (یعنی امت آپس میں خانہ جنلی کرنے لگے گی) تو قیامت تک تکوار چلتی رہے گی اور قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میری امت کے بہت سے قبیلے مشرکین میں داخل نہ ہو جائیں اور جب تک میری امت کے بہت سے قبیلے بتوں کونہ پوجیں۔ (پھر فرمایا کہ) بلاشبہ میری امت میں ۳۰ کذاب ہوں گے جن میں سے ہر ایک اپنے کو نبی بتائے گا حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا (مشکوٰۃ)۔

زلزلے بہت آئیں گے

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہ آئے گی جب تک دو بڑی جماعتیں آپس میں زبردست جنگ نہ کر لیں جن دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہو گا اور جب تک تیس کے قریب ایسے دجال و کذاب پیدا نہ ہو جائیں جن میں سے ہر ایک اپنے آپ کو اللہ کا رسول بتائے گا اور فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہ آئے گی۔ جب تک دنیا سے علم نہ اٹھ جائے اور زلزلوں کی کثرت نہ ہو جائے (بخاری و مسلم)۔

صورتیں مسخ ہوں گی

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس امت میں یقیناً زمین میں ڈھنس جانے اور آسمان سے پھر برلنے اور صورتیں مسخ ہو جانے کا عذاب آئیگا اور یہ اس وقت ہو گا جب (لوگ کثرت سے) شراب پیں گے اور گانے والی عورتیں رکھیں گے اور گانے بجائے کاسامان استعمال کریں گے (ابن ابی الدنيا) (۱) حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس سے حضرت علی و حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کی جنگ مراد ہے۔

امت محمد یہ ﷺ یہود و نصاراً کی اور فارس و روم کا اتباع کرے گی

حضرت ابوسعیدؓ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم یقیناً اپنے سے پہلوں کا بالشت بالشت اور ذراع بذراع اتباع کرو گے (جس چیز کی طرف وہ جس قدر بڑھتے تھے تم بھی اسی قدر بڑھو گے۔ جس چیز کی طرف وہ ایک بالشت بڑھتے تھے تم بھی اسی قدر بڑھو گے اور جس چیز کی طرف وہ ایک ذراع یعنی ایک ہاتھ بڑھتے تھے تم بھی اسی قدر بڑھو گے) حتیٰ کہ اگر وہ گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے تھے تو تم بھی داخل ہو گے۔ سوال کیا گیا یا رسول اللہ کیا پہلوں سے آپ کی مراد یہود و نصاراً ہیں؟ ارشاد فرمایا تو اور کون ہیں۔ (بخاری و مسلم)

دوسری آیت میں ہے جو حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے مردی ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً میری امت پر وہ زمانہ آئے گا جو بنی اسرائیل پر گذرا تھا جس طرح (ایک پیر کا) جوتا دوسرے (پاؤں کے) جوتے کے برابر ہوتا ہے اسی طرح ہو بہوتی کہ اگر ان بنی اسرائیل میں سے کسی نے علانية اپنی ماں سے زنا کیا ہو گا تو میری امت میں بھی ایسا کرنے والے ہوں گے (پھر فرمایا کہ) بلاشبہ بنی اسرائیل کے ۲۷ مذہبی فرقے ہو گئے تھے اور میری امت کے ۳۷ مذہبی فرقے ہوں گے جو ایک کے علاوہ سب دوزخ میں جائیں گے صحابہؓ نے عرض کیا وہ (جنتی) کون سا ہو گا؟ ارشاد فرمایا جو اس طریقہ پر ہو گا جس پر میں اور میرے صحابہؓ ہیں (مغلوہ)۔

ان حدیثوں میں آپ ﷺ نے جو کچھ ارشاد فرمایا تھا وہ سب کچھ آج

ہمارے سامنے موجود ہے بني اسرائیل کے عوام اور علماء نے جو حرکتیں کی تھیں وہ سب ہمارے زمانے میں موجود ہیں۔ دین میں بدعتیں نکالنا، کتاب خداوندی کی تحریف کرنا، کسی صاحب دولت کے دباو سے مسئلہ شرعیہ بدل دینا، دین فتح کر دنیا حاصل کرنا، مساجد کو سجانا، حیلوں بہانوں سے حرام چیزوں کو حلال کرنا وغیرہ وغیرہ سب کچھ اس دور میں موجود ہے۔

جن ۳۷ فرقوں کی خبر سرور عالم ﷺ نے دی ہے وہ بھی پورے ہو چکے ہیں جن کی تفصیل بعض شروح و حدیث میں مذکور بھی ہے۔ یہاں اتنا سمجھ لیتا ضروری ہے کہ اس سے صرف وہ فرقہ مراد ہیں جو شریعت اسلامیہ کے عقیدوں سے متفق نہیں ہیں۔ جیسے معتزلہ، خوارج، رواض، قادری، اہل قرآن وغیرہ ہیں اور جو لوگ عقائد اسلامیہ کو بلا چون وجاہات نہیں اور صرف نماز روزہ کے مسائل میں مختلف ہیں (جیسے چاروں اماموں کے مقلدین اور فرقہ الہمدادیت ہے) وہ سب اسی ایک فرقہ میں داخل ہیں جسے جنتی فرمایا ہے کیونکہ جن مسائل میں ان کا اختلاف ہے ان میں حضرات صحابہؓ کا بھی اختلاف تھا اور صحابہؓ کے طریقے پر چلنے والے کو آنحضرت ﷺ نے جنتی فرمایا ہی ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میری امت اپنے سے پہلے لوگوں کا طریقہ بالشت باشٹ اور ذراع بذراع اختیار نہ کرے گی۔ اس پر سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ ﷺ مثلًا فارس اور روم (کا اتباع کریں گے) ارشاد فرمایا کہ اور ان کے سوا پہلے لوگ کون ہیں!

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں فارس

اور روم کے اتباع کی خبر دی ہے۔ اور پہلی حدیث میں یہود و نصاریٰ کے اتباع کی خبر دی ہے۔ لہذا دونوں کو ملا کر یہ نتیجہ نکلا کہ دین کے بگاڑنے کے بارے میں تو یہ امت یہود و نصاریٰ کے پیچھے چلے گی اور سیاست و حکومت کے معاملات میں فارس اور روم کا اتباع کرے گی۔

ہر شخص اپنی رائے کو ترجیح دے گا اور نفسانی خواہشوں کی اتباع کرے گا

حضرت ابو تعلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ بھلائیوں کا حکم کرتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو حتیٰ کہ جب لوگوں کی یہ حالت ہو جائے کہ تم یہ دیکھو کہ بخل (کنجوی) کی اطاعت کی جاتی ہو (یعنی جب لوگوں میں کنجوی عام ہو جائے) اور نفسانی خواہش کا اتباع کیا جائے اور دنیا کو (دین پر) ترجیح دی جائے اور ہر شخص اپنی رائے پر اتراتا ہو اور تم اپنے (متعلق) یہ بات ضرور دیکھو کہ لوگوں میں رہ کر میں بھی برائیوں میں پڑ جاؤں گا تو اس وقت صرف اپنے نفس کو سنبھال لیتا اور عوام کے معاملہ کو چھوڑ دینا الحدیث۔ (مشکلۃ)

دو خاص بادشاہوں کے بارے میں پیشیں گوئی

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک قبیلہ قحطان سے (جو یمن میں رہتے ہیں) ایک ایسا شخص نہ ظاہر ہو (جو اپنے اقتدار کے سبب) لوگوں کو اپنی لکڑی سے ہانکے گا۔ (بخاری و مسلم)

(۱) ولقد اجاد فی اطیق۔

یعنی سب لوگ اس کی بات کو مانیں گے اور متفق ہو کر اس کی حکومت تسلیم کریں گے (مرقات) حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے بحوالہ قرطبی بعض علماء کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ سخت طبیعت اور ظالم ہونے کی وجہ سے وہ شخص لوگوں کو حقیقتاً اونٹوں اور بکریوں کی طرح ہانکے گا۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی دوسری روایت میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک رات اور دن ختم نہ ہوں گے جب تک جہاجہ نامی ایک شخص بادشاہ نہ بن جائے جو غلاموں کی نسل سے ہوگا۔ (مسلم)

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے قیامت نامہ میں مقطان بادشاہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جائزین بتایا ہے و اللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

ایک جدشی خانہ کعبہ کو برپا کرے گا

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک جبش والے تم سے نہ لڑیں تم ان سے نہ لڑو کیونکہ خانہ کعبہ کا خزانہ دو چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا جدشی نکالے گا۔ (مشکلۃ)

دوسری روایت میں ہے کہ کعبہ کو دو چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا جدشی ویران کرے گا۔ (بخاری و مسلم)۔

چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا اس لئے فرمایا کہ اہل جبشہ کی پنڈلیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں۔

حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ جب جہاں سے سارے ایماندار اٹھ جائیں گے تو جدشیوں کی چڑھائی ہو گی اور ان کی سلطنت تمام روئے زمین پر پھیل جائے گی۔ کعبہ کو ڈھائیں گے اور حج موقوف ہو جائے گا۔ خانہ کعبہ کے خزانہ سے

کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں مرققات شرح مشکوٰۃ میں ایک قول نقل کیا ہے کہ خانہ کعبہ کے نیچے ایک خزانہ دفن ہے اسے جبشی نکالیں گے۔

پھلوں میں کمی ہو جائے گی

حضرت ابو مویؑ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ قریب قریب ہو جائے گا (یعنی جلدی جلدی گذرنے لگے گا) سال کم ہو جائیں گے (یعنی جلدی ختم ہوں گے) پھل کم ہو جائیں گے۔ (طبرانی)

پھل کم ہونے کے دو مطلب ہیں ایک یہ کہ کم پیدا ہوں، دوسرا یہ کہ چھوٹے چھوٹے پیدا ہوں۔ دونوں صورتیں مراد ہو سکتی ہیں پھلی صدیوں میں پھل کتنے بڑے ہوتے تھے اس کی کچھ تفصیل کسی کتاب میں نظر سے نہیں گزرا۔ البتہ حضرت امام داؤ در حمدہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ میں نے ایک گھنی ۱۳ باشت کی ناپی ہے۔

شب سے پہلے مڈی ہلاک ہو گی

حضرت جابر بن عبد اللہ قریب ماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت میں جس سال ان کی وفات ہوئی تھی مڈی گم ہو گئی جس کی وجہ سے حضرت عمرؓ بہت ہی فرمند ہوئے اور اس کی تلاش میں ایک سواریمن کی طرف بھیجا اور ایک عراق کی طرف اور ایک شام کی طرف تاکہ وہ یہ معلوم کریں کہ اس سال مڈی دیکھی گئی ہے یا نہیں۔ جو صاحب یمن گئے تھے وہ ایک مٹھی مڈیاں لائے اور حضرت عمرؓ کے سامنے ڈال دیں۔ جب آپ نے وہ دیکھیں تو (خوشی میں) اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور فرمایا کہ میں نے رسول خدا ﷺ سے نہ ہے کہ بے شک اللہ جل شانہ نے

(حیوانات کی) ایک ہزار قسمیں پیدا فرمائی ہیں جن میں ۲۰۰ دریائی اور ۴۰۰ خشکی ہیں اور ان میں سب سے پہلے (قیامت کے قریب) مذہبی ہی ہلاک ہوگی اور اس کے بعد دوسری (حیوانات) کی قسمیں یکے بعد دیگرے ہلاک ہوں گی جیسے کسی لڑی کا تاگہ ٹوٹ کر دانے ہی دانے گرنے لگتے ہیں۔

اس حدیث میں حضرت عمرؓ کی فکر کا حال معلوم ہوا کہ قرب قیامت کی ایک نشانی دیکھ کر (جو حقیقت میں موجود بھی نہ تھی صرف ان کے علم کے اعتبار سے ظاہر ہوئی تھی) کس قدر گھبرائے اور سواروں کو بچج کر بڑے اہتمام سے اس کا پتہ لگایا کیا واقعی مذہبی کی جنس ہلاک ہو چکی ہے یا مدینے ہی میں نظر نہیں آئی؟ اب یہ اندازہ کر لجھئے کہ اگر مذہبی نہ ملتی تو حضرت عمرؓ کس قدر پریشان ہوتے اور ایک ہم ہیں کہ قیامت کی سینکڑوں نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتے۔

قرب قیامت کے تفصیلی حالات

اب تک جتنی پیشین گوئیاں کی جا چکی ہیں وہ سب قیامت ہی کی نشانیاں تھیں جن میں بعض پوری ہو چکی ہیں اور بعض پوری ہو رہی ہیں اور بعض آئندہ پوری ہوں گی۔ کسی حادثہ اور واقعہ کا قیامت کی علامتوں میں سے ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ قیامت کے بالکل ہی قریب ہو بلکہ مطلب یہ ہے کہ قیامت سے پہلے اس کا وجود میں آجانا ضروری ہے۔ اس لئے آنحضرت ﷺ نے بہت سے حوادث و واقعات کے بارے میں یہ فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ایسا نہ ہو جائے۔ خود سید عالم ﷺ کا دنیا میں تشریف لانا بھی علامات قیامت سے شمار کیا جاتا ہے حالانکہ آپ کی بعثت کو چودہ سو سال کے قریب ہو چکے

ہیں اور خدا ہی جانے کہ ابھی کتنے برسوں کے بعد قیامت قائم ہوگی۔
 بخاری شریف کی روایت میں تصریح ہے کہ آپ ﷺ نے اپنی وفات کو
 علمات قیامت سے شمار فرمایا۔ ذیل میں وہ حوادث و واقعات درج کرتا ہوں جو
 عموماً قیامت کے قریب تر زمانہ میں ظاہر ہوں گے عموماً ان واقعات کا تسلسل
 حضرت مولانا شاہ رفع الدین صاحب دہلوی قدس سرہ کے قیامت نامہ کے
 مطابق ہے (۱) اور تفصیلات راقم الحروف نے خود احادیث میں دیکھ کر قلم بند کی
 ہیں۔ بعض جگہ مجھے حضرت شاہ صاحب کی ترتیب سے اختلاف ہے لہذا ایسے
 موقع میں شاہ صاحب کا اتباع کرنے میں معدود رخنا۔

صلح اور جنگ عیسائیوں سے

حضرت ذی مخبرؑ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ عیسائیوں سے
 صلح کرو گے جو امن والی صلح ہوگی تم اور عیسائی آپس میں مل کر ایک دوسری عیسائی
 جماعت سے جنگ کرو گے۔ اس جنگ میں تمہاری فتح ہوگی غنیمت کامال ہاتھ لگے
 گا اور صحیح سالم واپس آ کر بڑے بڑے ٹیلوں والے میدان میں ٹھہرو گے جہاں
 درخت بہت ہوں گے بیٹھے بٹھائے ایک عیسائی صلیب کو ہاتھ میں اٹھائے گا اور
 کہے گا کہ صلیب کی برکت سے فتح ہوتی یہ سن کر ایک مسلمان کو غصہ آجائے گا اور
 (اس سے صلیب چھین کر) توڑا لے گا۔ یہ حال دیکھ کر عیسائی صلح کو توڑ دیں گے
 اور (مسلمانوں سے) جنگ کرنے کے لئے جمع ہو جائیں گے مسلمان بھی اپنے
 ہتھیار لے دوڑیں گے اور عیسائیوں سے جنگ کریں گے اور خدا اس (لڑنے
 (۱) ابو داؤد شریف۔ (۲) صلیب سولی کو کہتے ہیں کیونکہ عیسائی سولی کو پوچھتے ہیں اور اسے
 متبرک سمجھتے ہیں اس لئے وہ عیسائی شخص فتح کا سبب صلیب کی برکت کو بتائے گا۔

والی) جماعت کو شہادت کی عزت سے نوازے گا۔

حدیث شریف میں اسی قدر ذکر ہے اس کے بعد حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس جنگ میں مسلمانوں کا بادشاہ شہید ہو جائے گا اور دوسرے ملکوں کی طرح ملک شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت ہو جائے گی اور جس عیسائی جماعت نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر پہلے جنگ کی تھی اس سے اب یہ عیسائی صلح کر لیں گے اس جنگ سے جو مسلمان بچیں گے وہ مدینے میں چلے جائیں گے اور خبر کے قریب تک عیسائیوں کی حکومت ہو جائے گی۔

بخاری شریف میں ہے آنحضرت ﷺ نے عوف بن مالکؓ کو غزوہ تبوک کے موقع پر قیامت کی چھٹانیاں بتائیں جن میں بنی الاصفر یعنی (عیسائیوں) اور مسلمانوں کے درمیان صلح ہو جانا بھی ذکر فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ عیسائی بد عہدی کریں گے اور (صلح توڑ کر جنگ کرنے کے لئے) تمہارے مقابلہ میں آئیں گے جن کے ۸۰ جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے ۱۲ ہزار سپاہی ہوں گے (جن کی مجموعی تعداد ۱۲ ہزار کو ۸۰ میں ضرب دینے سے نو لاکھ سانچھ ہزار ہوتی ہے) بعض احادیث میں ایک بڑی جنگ کا ذکر بھی آیا ہے۔ مثلاً ترمذی اور ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے کہ۔

الملحمة العظمى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال فى سبعة اشهر.

ترجمہ:- جنگ عظیم، فتح قسطنطینیہ اور دجال کا نکنا سات میں کے اندر اندر

(۱) حضرت ابن عمرؓ کی روایت میں مسلمانوں کے مدینہ میں محصور ہو جانے اور خیر کے قریب تک غیروں کے تسلط کی تصریح موجود ہے، ابو داؤد۔ (۲) احادیث شریفہ میں علمات قیامت بالترتیب مذکور نہیں ہیں بلکہ متفرق احادیث میں متفرق واقعات میان فرمادیجے ہیں حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے ان واقعات کو ترتیب دے کر قیامت نامہ میں درج کیا ہے۔

ہو جائے گا یعنی یہ تینوں چیزیں قریب قریب ہوں گی اور سات ماہ میں ہو جائیں گی۔ یہ جنگ عظیم مسلمانوں اور غیر مسلموں کی ہوگی یا سارے عالم کے انسان مذہب کی وجہ سے نہیں بلکہ نظریات کی وجہ سے لڑپڑیں گے اس کے بارے میں احادیث میں کوئی تصریح راقم الحروف کو معلوم نہیں ہوتی۔ البتہ روایات میں جن بڑی بڑی جنگوں کا ذکر آیا ہے ان میں مسلمانوں سے مقابلہ کا ذکر بھی موجود ہے۔

حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور

جب مسلمان ہر طرف سے گھر جائیں گے اور ان کی حکومت صرف مدینہ منورہ سے خیر تک رہ جائے گی تو وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں لگ جائیں گے حضرت امام مہدی علیہ السلام اس وقت مدینہ میں ہوں گے اور امامت کا بار اٹھانے سے پہنچنے کے لئے مکہ مکرمہ چلے جائیں گے۔ مکہ کے بعض باشندے (انہیں پہچان لیں گے اور) ان کے پاس آ کر (مکان سے) انہیں باہر لا نہیں گے اور ان سے زبردستی بیعت (خلافت) کر لیں گے حالانکہ وہ دل سے نہ چاہتے ہوں گے یہ بیعت مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ہوگی۔ (غالباً حضرت امام کو طواف کرتے ہوئے بیعت پر مجبور کیا جائے گا) جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کی خلافت کی حجر مشہور ہوگی تو ملک شام سے ایک لشکر آپ سے جنگ کرنے کے لئے چلے گا اور آپ کے لشکر تک پہنچنے سے پہلے ہی مقام بیدار میں جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے زمین میں دھندا دیا جائے گا۔ اس واقعہ کی خبر سن کر شام کے ابدال اور عراق کے پرہیز گار لوگ آپ کی خدمت میں پہنچ جائیں گے۔ آپ کے مقابلہ کے لئے

(۱) ابدال۔ بدل کی جمع ہے۔ ابدال ان اولیاء اللہ کو کہتے ہیں جن کا بدن دنیا میں پیدا ہوتا رہتا ہے۔ ابتدائے اسلام سے آج تک ان کے وجود سے دنیا خالی نہیں ہوتی جب بھی ان میں سے کوئی اس دنیا سے گیا دوسرا اس کی جگہ ضرور قائم ہوا ہے اسی تبدله کی وجہ سے انہیں ابدال کہتے ہیں۔

ایک قریشی نسل شخص قبیلہ بنی کلب کے مردوں کا ایک لشکر بھیج گا۔ قبیلہ بنی کلب میں اس شخص کی نصیحت ہوگی۔ اس قبیلہ سے حضرت مهدی علیہ السلام کا لشکر جنگ کرنے گا اور غالب رہے گا۔ یہ روایت مشکلوۃ شریف میں ابو داؤد کے حوالہ سے روایت کی گئی ہے۔ اس کے شروع میں یہ بھی ہے کہ ایک خلیفہ کے مرنے پر اختلاف ہوگا کہ اب کس کو خلیفہ بنایا جائے اور ایک صاحب (یعنی حضرت مهدی علیہ السلام) یہ سمجھ کر مدینہ سے مکہ کو چل دیں گے کہ کہیں مجھے نہ بنالیں۔

امام مهدی علیہ السلام کا حلیہ نسب اور نام

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مهدی علیہ السلام میری نسل سے اور فاطمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کی اولاد سے ہوں گے۔

حضرت علی الرضا کرم اللہ وجوہہ نے ایک مرتبہ اپنے صاحزادے حضرت حسنؑ کے متعلق فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے اس کا نام سید رکھا ہے۔ اس کی اولاد میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام وہی ہوگا جو تمہارے نبی ﷺ کا نام ہے۔ یعنی اس کا نام محمد ہوگا پھر فرمایا کہ وہ اخلاق میں میرے بیٹے حسنؑ کے مشابہ ہوگا اور صورت میں اس کے مشابہ نہ ہوگا۔ یعنی اس کا حلیہ حسنؑ کے حلیہ سے ملتا جلتا نہ ہوگا۔ (ایضاً)

بعض روایات میں ہے کہ امام مهدی کے والد کا نام وہی ہوگا جو رسول اللہ کے والد کا نام تھا۔

حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”مهدی مجھ سے ہوگا اور اس کا چہرہ خوب روشن (نورانی) ہوگا۔ تاک بلند ہوگی۔“

(۱) مشکلوۃ۔ (۲) مشکلوۃ۔ (۳) ابو داؤد۔

امام مہدی علیہ السلام کے زمانہ میں دنیا کی حالت

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اس امت پر ایک زبردست مصیبت آئے گی اور انسان ظلم سے بچنے کے لئے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائے گا اس وقت خدا میری نسل اور میرے خاندان میں سے ایک شخص پیدا فرمائے گا اور اس کے ذریعہ زمین کو عدل اور انصاف سے بھردے گا جس طرح کہ وہ اس سے پہلے ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی ہوگی۔ (یعنی ان سے پہلے لوگوں میں عدل و انصاف نام کونہ ہوگا ہر جگہ ظلم ہی ظلم چھایا ہوا ہوگا اور ان کے آنے پر ساری دنیا انصاف سے بھر جائے گی) پھر فرمایا کہ ان کے عدل سے آسمان والے اور زمین والے سب راضی ہوں گے۔ (اور اس زمانہ میں نیکیوں اور عدل و انصاف کا یہ نتیجہ ہوگا کہ) آسمان ذرا سا پانی بھی بر سائے بغیر نہ چھوڑے گا اور خوب موسلا دھار بارشیں ہوں گی۔ زمین بھی اپنے اندر سے تمام پھل پھول، غلے اور ترکاریاں اگاؤے گی حتیٰ کہ (اس قدر ارزانی اور غذاوں کی بہتات ہوگی) کہ زندہ لوگ مردوں کی تمنا کرنے لگیں گے (کہ کاش ہمارے دوست احباب عزیز اور اقرباء بھی زندہ ہو جاتے تو اس عیش و خوشی کے زمانے کو دیکھ لیتے۔

حضرت مہدی علیہ السلام کے زمانے میں مال اس قدر کثیر ہوگا کہ ان سے اگر کوئی مال طلب کرے گا تو اپ بھر بھر کر اس کے کپڑے میں اتنا ڈال دیں گے جتنا وہ اٹھا کر لے جاسکے گا۔ (ترمذی شریف)

ابوداؤد شریف کی ایک روایت میں ہے کہ مہدی علیہ السلام نبی اکرم ﷺ کے طریق زندگی پر چلیں گے اور ان کی زمانے میں ساری زمین پر اسلام ہی اسلام ہوگا۔ حضرت مہدی علیہ السلام سات برس حکومت کریں گے پھر وفات پا جائیں

گے اور مسلمان ان کی نمازہ جنازہ پڑھیں گے۔

حضرت مہدی علیہ السلام کا کفار سے جنگ کرنا دجال کا نکلنا اور

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا

حضرت مہدی علیہ السلام کو کفار سے کئی جنگیں کرنی پڑیں گی جن میں سے بعض کا ذکر ابو داؤد کی روایت میں گزر چکا ہے اس روایت میں یہ بھی تصریح تھی کہ حضرت مہدی علیہ السلام سے جنگ کرنے کو قبیلہ بنی کلب کے آدمی آئیں گے اور مغلوب ہوں گے اور ایک لشکر آپ سے جنگ کرنے کے لئے چلے گا اور مکہ مدینہ کے درمیان زمین میں ڈھنس جائے گا۔ اس کے علاوہ دیگر روایات میں بھی مسلمانوں کے جنگ کرنے کا ذکر ہے۔ مگر ان میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے البتہ حضرت شاہ رفیع الدین صاحب نے انہیں بھی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زمانہ ہی کی جنگیں بتایا ہے۔ ذیل میں انہیں بھی لکھتا ہوں۔

شاہ صاحب[ؒ] لکھتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام مکہ سے چل کر مدینہ تشریف لے جائیں گے اور سید عالم علیہ السلام کی قبراطہر کی زیارت کے بعد ملک شام کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ چلتے چلتے شہر دمشق تک ہی پہنچیں گے کہ دوسری طرف سے عیسائیوں کی فوج مقابلہ میں آجائے گی اس فوج سے جنگ کرنے کیلئے حضرت مہدی علیہ السلام اپنے لشکر کو تیار کریں گے اور تین دن جنگ کے بعد چوتھے روز مسلمانوں کو فتح ہوگی اور لشکر کشی کا ذکر حدیث میں یوں آیا ہے۔

”قیامت قائم ہونے سے پہلے ایسا ضرور ہوگا کہ نہ میراث (یعنی میت کا

ترکہ) کی تقسیم ہوگی اور نہ مال غنیمت پر خوشی ہوگی پھر اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ شام کے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لئے ایک زبردست دشمن جمع ہو کر آئے گا اور دشمن سے جنگ کرنے کے لئے مسلمان بھی جمع ہو جائیں گے اور اپنی فوج سے انتخاب کر کے ایک ایسی جماعت دشمن کے مقابلہ میں بھیجیں گے جس سے یہ طے کرالیں گے یا مر جائیں یا فتح یا ب ہوں گے چنانچہ دن بھر جنگ ہوگی حتیٰ کہ جب رات ہو جائے گی تو لڑائی بند ہوگی اور ہر فریق میدان جنگ سے واپس ہو جائے گا نہ اسے غلبہ ہو گا نہ وہ غالب ہوں گے اور دونوں فریقوں کی فوج (جو آج لڑی تھی لڑتے لڑتے) ختم ہو جائے گی دوسرے دن پھر مسلمان ایک ایسی جماعت کا انتخاب کر کے بھیجیں گے جس سے یہ طے کرالیں گے کہ مرے بغیر یا فتح یا ب ہوئے بغیر نہ ہیں گے اس روز بھی دن بھر جنگ ہوگی حتیٰ کہ رات دونوں فریق کے درمیان حائل ہو جائے گی اور کسی کو بھی فتح نہ ہوگی یہ بھی بغیر غلبہ کے واپس ہو جائیں گے اور وہ بھی۔ اور اس روز کے لڑنے والی بھی دونوں فریقوں کی فوج ختم ہو جائے گی۔ تیسرا دن پھر مسلمان ایک جماعت کا انتخاب کر کے میدان جنگ میں بھیجیں گے اور ان سے بھی یہی شرط لگائیں گے کہ مر جائیں گے یا غالب ہو کر ہیں گے۔ چنانچہ شام تک جنگ ہوگی اور ہر دو فریق اس روز بھی برابر سارے لوث آئیں گے نہ یہ غالب ہوں گے نہ وہ اور اس روز بھی جنگ کرنے والی جماعتیں ہر دو طرف کی ختم ہو جائیں گی چوتھے روز بچے کھپے بہ مسلمان جنگ کے لئے اٹھ کھڑے ہوں گے اور خدا کافروں کو نکست دے گا اور اس روز ایسی زبردست جنگ ہوگی کہ اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی گئی ہوگی۔ اس جنگ کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ میدان جنگ میں مرنے والوں کی نعشوں کے قریب ہو کر پرندہ گز رنا چاہے گا مگر (بدبوکی وجہ سے نعشوں کے پڑاؤ کی لمبی مسافت کی

وجہ سے اڑتے اڑتے) مر کر گر پڑے گا (اور نعشوں کے اول سے آخر تک نہ جا سکے گا) اور اس جنگ میں شریک ہونے والے لوگ اپنے اپنے کنبہ کے آدمیوں کو شمار کریں گے۔ تو فی صدی ایک شخص میدان جنگ سے بچا ہوا ہو گا۔“ اس کے بعد فرمایا کہ۔

”بتو اس حال میں ہوتے ہوئے کیا مال غنیمت لے کر دل خوش ہو گا اور کیا ترکہ باٹھنے کو دل چاہے گا۔“ پھر فرمایا۔

”جنگ سے فارغ ہو کر آدمیوں کے شمار کرنے میں لگے ہوں گے کہ اچانک ایک ایسی جنگ کی خبر سنیں گے جو اس پہلی جنگ سے بھی زیادہ سخت ہو گی (اور ابھی اس دوسری جنگ کی طرف توجہ بھی نہ کرنے پائیں گے کہ) دوسری خبر یہ معلوم ہو گی کہ دجال نکل آیا جو ہمارے بال بچوں کو فتنہ میں بنتا کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر اپنے ہاتھوں سے وہ مال و دولت پھینک دیں گے جو ان کے پاس ہو گا اور اپنے گھروں کی طرف چل دیں گے خبر گیری کے لئے اپنے آگے دس سوار صحیح دیں گے تاکہ دجال کی صحیح خبر لا سکیں۔ آنحضرت ﷺ نے ان سواروں کے بارے میں فرمایا کہ میں ان کو اور ان کے والدوں کے نام اور ان کے گھوڑوں کے رنگ پہچانتا ہوں۔ یہ سوار اس روز زمین پر بننے والوں میں فضیلت والے سوار ہوں گے۔“ اس کے بعد حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں۔

”اس جنگ میں اس قدر عیسائی قتل ہوں گے کہ جو باقی رہ جائیں گے ان کے دماغ میں حکومت کی بونہ رہے گی گرتے پڑتے بھاگیں گے اور تتر تتر ہو جائیں گے بھاگتے ہوؤں کا یہی مسلمان پیچھا کریں گے اور ہزاروں کو موت کے گھاث اتار دیں گے۔“ پھر لکھتے ہیں کہ:

”اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام اسلامی شہروں کے بندوبست میں لگ جائیں گے اور ہر جگہ سینکڑوں فوجیں اور بے شمار لشکر روانہ فرمائیں گے ان کاموں سے فرصت پا کر شہر قسطنطینیہ فتح کرنے کے لئے روانہ ہوں گے (جس کا فتح ہونا علماء قیامت میں سے ہے۔ جب آپ دریائے روم کے کنارے پہنچیں گے تو بنو اسحاق کے ستر ہزار آدمیوں کو کشیوں میں سوار کر کے شہر مذکورہ پر حملہ کرنے کا حکم دیں گے۔ اخ

حدیث شریف میں بنو اسحاق کے ستر ہزار آدمیوں کے جنگ کرنے کا ذکر تو آیا ہے مگر اس میں یہ تصریح نہیں ہے کہ وہ شہر قسطنطینیہ کی فتح کے لئے جنگ کریں بلکہ یہ فرمایا کہ ایسا شہر ہے جس کی ایک جانب خشکی ہے اور دوسری جانب سمندر ہے۔ اس کے باشندوں سے ستر ہزار بنو اسحاق جنگ کریں گے۔ صاحب مرقاۃ لکھتے ہیں کہ یہ شہر روم میں ہے جسے بعض نے قسطنطینیہ بتایا ہے۔ شاہ صاحبؒ کی طرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس شہر کو قسطنطینیہ ہی مراد لیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

وہذه المدینه هي قسطنطینیہ اس سے شہر قسطنطینیہ مراد ہے۔

پوری روایت اس طرح ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک مرتبہ حضرات صحابہؓ سے ارشاد فرمایا ”کیا تم ایسے شہر کو جانتے ہو جس کی ایک جانب خشکی ہے اور دوسری جانب سمندر ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا جی ہاں جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی۔ جب تک بنو اسحاق کے ستر ہزار انسان اس شہر پر (۱) بنو اعلیٰ حضرت الحسن علیہ السلام کی نسل کے آدمی جو شام میں رہتے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ گوکتاب معلم میں بنو اسحاق ہے مگر محفوظ بنو اسماعیل ہے۔

حملہ کر کے جنگ نہ کر لیں گے جب یہ لوگ جنگ کرنے کے لئے اس شہر کے قریب آ کر قیام کریں گے تو نہ کسی ہتھیار سے لڑیں گے اور نہ کوئی تیر پھینکیں گے (بلکہ مخف خدا کی غبی مدد کے ذریعہ فتح کر لیں گے جس کی صورت یہ ہوگی کہ) لا اله الا الله والله اکبر کافرہ لگائیں گے تو اس کی ایک طرف ا (کی دیوار) گر جائے گی۔ پھر دوبارہ لا اله الا الله والله اکبر کافرہ لگائیں گے تو اس کی دوسری جانب (کی دیوار) گر جائے گی پھر تیسرا بار لا اله الا الله والله اکبر کہیں گے تو شہر میں داخل ہونے کے لئے راستہ مل جائے گا اور اس میں داخل ہو جائیں گے (داخل ہو کر شہر کو فتح کر لیں گے) اور مال غنیمت ہاتھ لے گا۔ غنیمت کا مال تقسیم کر رہی رہے ہوں گے کہ اچانک یہ آوازیں گے کہ دجال نکل آیا ہے اس کی آواز کو سن کر ہر چیز کو چھوڑ کرو اپس آجائیں گے۔ (مسلم شریف)

مسلم شریف کی دوسری روایت میں (جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے) فتح قسطنطینیہ اور خروج دجال کا ذکر یوں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ایسا نہ ہو کہ روم والے عیسائی اعمال ۲ یا رابق میں قیام کریں گے اور (ان سے جنگ کے لئے) مدینہ کا ایک لشکر نکلے گا جو اس وقت زمین پر بنے والوں میں فضیلت والے ہوں گے۔ جب دونوں طرف سے فوجیں صفت بنا کر کھڑی ہو جائیں گی تو عیسائی کہیں گے کہ ہمیں اور ان مسلمانوں کو چھوڑ دو جو ہمارے آدمیوں کو قید کر لائے ہیں۔ مسلمان

(۱) راوی کہتے ہیں کہ غالباً حضرت ابو ہریرہؓ نے پہلے سمندر کی جانب سے چار گناہیں فرمایا۔
 (۲) علامہ نووی لکھتے ہیں کہ اعمال اور رابق شہر حلب کے قریب دو مقام ہیں اور یہ جو فرمایا کہ مدینہ سے ایک لشکر عیسائیوں کے مقابلہ کے لئے صفت آراء ہوگا اس سے مدینہ الرسول مراد نہیں ہے بلکہ شہر حلب مراد ہے۔ صاحب مظاہر حق نے بعض علماء کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ مدینہ سے شہر دمشق مراد ہے اور مدینہ الرسول مراد لینا ضعیف قول ہے۔ عضاء اللہ عنہ۔

جواب دیں گے کہ خدا کی قسم ہم ایسا نہیں کریں گے کہ تمہارے اور اپنے بھائیوں کے درمیان کچھ نہ بولیں اور تمہیں ان سے لڑنے دیں۔ یہ کہہ کر عیسائیوں سے جنگ کریں گے اور اس جنگ میں مسلمانوں کا تہائی لشکر شکست کھا جائے گا (یعنی فوج کے تہائی آدمی جنگ سے فتح کر الگ ہو جائیں گے) خدا ان کی توبہ کبھی قبول نہ کرے گا اور تہائی لشکر شہید ہو جائے گا جو اللہ کے نزد یک افضل الشهداء ہوں گے اور تہائی لشکر عیسائیوں پر غلبہ پا کر فتح یاب ہو گا جو کبھی بھی فتنہ میں نہ پڑیں گے اور یہی تہائی لشکر قسطنطینیہ کو فتح کرے گا۔ فتح قسطنطینیہ کے بعد غیرمت کے مال کو تقسیم کر رہے ہوں گے اور اپنی تواریں زیتون کے درخت پر لٹکائے ہوئے ہوں گے کہ اچانک شیطان زور سے یوں پکارے گا بلاشبہ مسح (دجال) تمہارے پیچھے تمہاری اہل اولاد میں پہنچ گیا۔ ”حالانکہ یہ خبر جھوٹ ہو گی (اس کے بعد مسلمانوں کا لشکر شام کا رخ کرے گا) اور جب شام ۲ پہنچیں گے تو دجال نکل آئے گا۔ اسی اثناء میں کہ جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے اور صفیل درست کرتے ہوں گے نماز کا وقت ہو جائے گا اور نماز کھڑی ہو جائے گی۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ بن مریم آسمان

(۱) قال التووی معنی قوله لا يتب الله عليهم اى لا بلهم التوبة و لعل العصر في تفسير رحمة الله عليهم بذلك ان الله عز و جل وعد عباده التائبين والمستغرين التوبة عليهم والاستغفار لهم فإذا تابوا بعد التوفى من القتال كيف لا يتوب عليهم فلا محالة معناه انه لا يلهم التوبة اقول لا ضرورة لهذا التاویل اذ الله ان يتوب على من يشاء و يعذب من شاء و يجعل بضم الذنب يرمكفة بالتوبة لا سيما اذا نص على لسان رسوله بعد عدم الامر بالمعروف و لاتهى عن المنكر ثم لتدعنه و لا يستجاب لكم و ارب اذ التاویل يوم الزحف ليس مما يكفر به فاعله بل هو مصيبة من المعاصي الكبيرة۔ (۲) ظاہر یہ ہے کہ شام سے بیت المقدس مراد ہے جیسا کہ بعض روایات میں اس کی تصریح آئی ہے (مظاہر حق)

سے اتر آئیں گے اور ان کے امام بنیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دیکھتے ہی خدا کا دشمن (دجال) اس طرح پکھلنے لگے گا۔ جیسے پانی میں نمک پکھلتا ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام اس کو قتل نہ کریں اور ویسے ہی چھوڑ دیں تو دجال بالکل پکھل کر ہلاک ہو جائے لیکن وہ اسے اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے اور اپنے نیزہ میں اس کا خون لگا ہوالوگوں کو دکھائیں گے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کا حلیہ

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے آج خواب میں کعبہ دیکھا تو ایک صاحب دو شخصوں کے کامدھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے طواف کرتے نظر آئے جن کا رنگ ایسا اچھا گندی تھا جو اچھے سے اچھے گندی رنگ والے انسانوں کا تم نے دیکھا ہو۔ ان کے بال کانوں سے نیچے تک رکھے ہوئے تھے اور ایسے اچھے تھے جو کسی اچھے بالوں والے کے بال تم نے دیکھے ہوں۔ اپنے بالوں میں انہوں نے لگانگھی کر رکھی تھی اور ان کے بالوں سے پانی کے قطرے پک رہے تھے میں نے (کسی سے) دریافت کیا کہ یہ کون ہیں؟ تو جواب دیا گیا کہ یہ مسیح بن مریم علیہ السلام ہیں دوسری روایت میں ہے جو آگے آنے والی ہے کہ مسیح بن مریم دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے اور زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے آسمان سے اتریں گے۔ جب سرجھا کیں گے تو (ان کا پسینہ) ملکے گا اور جب سراخھائیں گے تو اس سے موتیوں کی طرح (پسینے کے نورانی) دانے گریں گے جیسے کہ چاندی کے بنائے ہوئے دانے ہوں۔

پھر فرمایا کہ میں نے پھر ایک شخص کو دو آدمیوں کے موٹھوں پر ہاتھ رکھے

ہوئے طوف کرتے دیکھا جس کے بال بہت گھونگریا لے تھے۔ وہنی اآنکھ سے کانا تھا گویا اس کی آنکھ اوپر کو اٹھا ہوا انگور تھا (یعنی اس کی آنکھ میں سیاہی نہ تھی جس کے ذریعہ نظر آتا ہے بلکہ انگور کی طرح سفید تھی۔ اوپر کو بھی اٹھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے بد صورت معلوم ہوتا تھا) میں نے لوگوں میں سب سے زیادہ اس کی شکل سے ملتا جلتا عبدالعزیز بن قطن کو دیکھا ہے۔

دوسری روایت میں ہے کہ اس شخص کا جسم سرخ تھا۔ بدن بخاری تھا۔ سر کے بال گھونگریا لے تھے وہنی آنکھ سے کانا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ یہ مسح دجال ہے۔
بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ دجال پستہ قد ہو گا اور اس کی نائیں میزی ہوں گی۔

بیہقی نے کتاببعث والنشر میں ایک روایت ذکر کی ہے کہ دجال ایک ایسے گدھے پر سوار ہو کر نکلے گا جو بہت زیادہ سفید ہو گا اور جس کے دونوں کانوں کے درمیان ستر بار کا فاصلہ ہو گا اور ایک بار دو گز کا ہوتا ہے۔

دجال کا دنیا میں فساد مچانا اور حضرت علیہ السلام کا اسے قتل کرنا

حضرت حدیفہؓ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ بے شک دجال نکلے گا اور بے شک اس کے ساتھ میں پانی بھی ہو گا اور آگ بھی ہو گی۔

(۱) بعض روایات میں ہے کہ دجال کی بائیں آنکھ کافی ہے لہذا سب روایات کو جمع کر کے حضرت علماء کرام نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ وہنی آنکھ سے تو بالکل ہی کانا ہو گا جو انگور کی طرح اوپر کو اٹھی ہوئی ہو گی۔ اور باسیں آنکھ سے بھی کانا ہو گا مگر اس سے نہ دکھائی دیتا ہو گا۔ (۲) بخاری و مسلم۔

بعض روایات میں ہے کہ اس کے ساتھ اس کی جنت بھی ہوگی اور اس کی دوزخ بھی ہوگی جسے لوگ پانی سمجھیں گے وہ (واقع میں) جلانے والی آگ ہوگی۔ (یعنی اس کو قبول کرنے کے سبب دوزخ کی آگ میں جلیں گے) اور جسے لوگ آگ سمجھیں گے وہ میٹھا پانی ہوگا۔ (یعنی اس میں گرنے کے سبب جنت کا میٹھا پانی نصیب ہوگا) لہذا تم میں سے جو کوئی اس کے زمانہ میں ہو تو چاہئے کہ اسی میں گرے جو آگ دکھائی دے رہی ہو کیونکہ وہ درحقیقت میٹھا پانی ہے। مسلم کی روایت میں یہ بھی ہے کہ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان لفظ ”کافر“ لکھا ہوگا جسے ہر پڑھا بے پڑھامون پڑھ سکے گا۔ بعض روایات میں ہے کہ اس کے ساتھ گوشت روٹی کے پھاڑ اور پانی کی نہریں ہوں گی۔

کسی کے غصہ دلانے پر مشرق سے نکل پڑے گا اور مدینہ جانے کا قصد کرے گا لیکن مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا کیونکہ اس روز مدینہ کے سات دروازے ہوں گے اور ہر دروازہ پر دو فرشتے پھرہ کے لئے مقرر ہوں گے لہذا وہ احد کے پھاڑ کے پیچے ٹھہر جائے گا اور وہاں سے فرشتے اس کارخ شام کی طرف کر دیں گے۔ شام کی طرف چل دے گا۔ وہی حضرت مسیح بن مریم علیہ السلام کے ہاتھوں ہلاک ہو گا۔

جس وقت مدینہ کے قریب (احد کے پیچے) آ کر ٹھہرے گا تو مدینہ میں ززلہ کے تین جھٹکے آئیں گے۔ ان سے ٹھہرا کر تمام کافر اور منافق باہر نکل کر دجال کے پاس پہنچ جائیں گے۔

فتح الباری میں حاکم کی ایک روایت نقل کی ہے جس میں یہ بھی ہے کہ مدینہ

(۱) بخاری و مسلم شریف۔ (۲) صحیفہ۔ (۳) صحیفہ

سے فاسق مرد اور فاسق عورتیں بھی اس کی طرف نکل کھڑی ہوں گی اسی اثناء میں جب کہ دجال مدینہ کے قریب خبر ا ہوا ہوگا۔ یہ واقعہ پیش آئے گا کہ مدینہ سے ایک صاحب نکل کر دجال کے سامنے آئیں گے جو اس زمانے میں روئے زمین پر بننے والوں میں سب سے بہتر ہوں گے وہ دجال سے کہیں گے اشهاد انک الدجال الذی حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثہ (میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک تو وہی دجال ہے جس کی رسول اللہ ﷺ نے ہمیں خبر دی تھی) ان کی یہ بات سن کر دجال حاضرین سے کہے گا کہ اگر میں اسے قتل کر کے پھر زندہ کر دوں تو بھی میرے دعوے میں تم شک کرو گے؟ لوگ جواب دیں گے نہیں؟ لہذا دجال ان صاحب قسم مجھے تیرے بارے میں جتنا آج (تیرے جھوٹا ہونے کا کہیں گے کہ خدا کی قسم مجھے تیرے بارے میں جتنا آج (تیرے جھوٹا ہونے کا یقین ہوا ایسا پہلے نہ تھا۔ اس کے بعد دجال انہیں دوبارہ قتل کرنا چاہے گا لیکن نہ کر سکے گا!

اسی قسم کا ایک اور واقعہ حدیثوں میں آیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک مومن دجال کے پاس جانے کا ارادہ کرے گا۔ دجال کے سپاہی جو اس کے دربانی میں لگے ہوں گے دریافت کریں گے کہاں جانا چاہتے ہو وہ تحقیق کے انداز میں جواب دیں گے اس شخص کی طرف جانا چاہتا ہوں جو (جھوٹا دعویٰ کر کے) نکلا ہے۔ پھرہ دار کہیں گے کیا تو ہمارے خدا پر ایمان نہیں رکھتا؟ وہ جواب دیں گے ہمارے رب کے پیچانے میں تو کوئی شبہ ہے ہی نہیں (اگر ہمارا معبود نہ پیچانا جاتا اور اس کے خدا ہونے کا ثبوت نہ ہوتا تو ممکن تھا کہ تمہارے خدا کو مان لیتا) اس گفتگو کے بعد وہ لوگ انہیں قتل کرنے کا ارادہ کریں گے لیکن (پھر آپس میں ایک دوسرے کے

سمحانے سے رائے بدل جائے گی کیونکہ بعض بعض سے کہیں گے تمہیں معلوم نہیں تھا مارے رب نے اپنی اجازت کے بغیر کسی کو قتل کرنے کو منع کر رکھا ہے۔ لہذا انہیں دجال کے پاس لے جائیں گے اور وہ دجال کو دیکھتے ہی کہیں گے ”اے لوگو! یہ وہی دجال ہے جس کی رسول اللہ ﷺ نے خبر دی تھی۔“

دجال ان کی بات سن کر اپنے آدمیوں کو حکم دے گا کہ اسے اوندھا لتا دو۔ چنانچہ ایسا ہی کر دیا جائے گا پھر کہے گا کہ اسے زخمی کر دو۔ چنانچہ پیٹتے پیٹتے ان کی کمر اور پیٹ کو چوڑا چکلا کر دیا جائے گا پھر دجال ان سے کہے گا کہ (اب بھی) تو مجھ پر ایمان نہیں لائے گا وہ کہیں گے تو مسح کذاب ہے۔ اس پر وہ اپنے آدمیوں کو حکم دے کر سر پر آرا رکھ کر چڑھادے گا اور دونوں ٹانگوں کے درمیان سے ان کے دو نکڑے کر دیئے جائیں گے۔ پھر ان دونکڑوں کے درمیان پہنچ کر کہے گا کہ اٹھ کھڑا ہو چنانچہ وہ مومن زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔ ان سے دجال کہے گا کہ (اب بھی) مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ میں تو اور بھی زیادہ تیرے دجال ہونے کو سمجھ گیا۔ پھر وہ لوگوں سے فرمائیں گے۔ اے لوگو! میرے بعد اب یہ کسی کو نہ ستائے گا یہ سن کر دجال انہیں ذبح کرنے کے لئے پکڑے گا اور ذبح نہ کر سکے گا کیونکہ (خدا کی قدرت سے ان کی ساری گردن تانبے کی بنا دی جائے گی جب ذبح پر قادر نہ ہوگا) تو ان کے ہاتھ پاؤں پکڑ کر (اپنے دوزخ میں) ڈال دے گا لوگ سمجھیں گے کہ انہیں آگ میں ڈالا۔ حالانکہ حقیقت میں وہ جنت میں ڈالے گئے۔

اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ یہ مومن رب العالمین کے نزدیک سب لوگوں سے بڑھ کر باعظمت شہادت والا ہوگا۔ (مسلم)

دجال مکہ میں داخل نہ ہو سکے گا جیسا کہ حضرت انسؓ کی روایت میں ہے کہ

رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں دجال نہ پہنچ سوائے مکہ اور مدینہ کے (کہ ان میں نہ جاسکے گا)۔ (بخاری و مسلم)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لاتعداد انسان دجال کے فتنہ میں پھنس جائیں گے اور بعض روایات میں اس پر ایمان لانے والوں کی خاص تعداد کا بھی خاص طور پر ذکر ہے۔ چنانچہ مسلم کی ایک روایت میں ہے اصفہان کے ستر ہزار یہودی اس کے تابع ہو جائیں گے اور ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ دجال مشرق کی ایک سر زمین سے نکلے گا۔ جسے خراسان کہتے ہیں۔ بہت قویں اس کا اتباع کر لیں گی جن کے چہرے تہ بتے بنائی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے (یعنی ان کے چہرے چوڑے چکلے ہوں گے) حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ابو یحیم کی مشہور کتاب ”حلیہ“ سے نقل کیا ہے کہ حضرت حسان بن عطیہ تابعی فرماتے تھے کہ بارہ ہزار مردوں اور سات ہزار عورتوں کے علاوہ سب انسان دجال کے تابع ہو جائیں گے اور اس کی خدائی کا اقرار کر لیں گے۔

حضرت نواس بن سمعانؓ فرماتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) رسول اللہ ﷺ نے دجال کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ اگر میری موجودگی میں نکل آیا تو میں اس سے مقابلہ کروں گا تمہیں گھبرا نے کی ضرورت نہیں اور اگر اس وقت میں تمہارے اندر موجود نہ ہوں گا تو ہر شخص اپنی طرف سے دجال سے مقابلہ کرنے والا ہونا چاہئے اور میرے پیچے اللہ ہر مسلمان کا گمراہ ہے۔ (دجال کی پہچان یہ ہے کہ) وہ یقیناً جوان ہوگا۔ گھونکھریا لے بالوں والا ہوگا۔ اس کی آنکھ اٹھی ہوئی ہوگی۔ اس کی (۱) ملاعلی قاری لکھتے ہیں کہ چوڑے چکلے چہرے والے لوگ ازبکوں اور ترکوں میں پائے جاتے ہیں۔ خراسان میں اس وقت ان کا وجود نہیں ہے۔ ممکن ہے اس وقت خراسان میں ہوں یا اپنے وطن سے آ کر خراسان میں آ کر دجال سے مل جائیں۔ (۲) فتح الباری باب ذکر الدجال۔

صورت میرے عندي یہ میں عبد العزی بن قطن جیسی ہے تم میں سے جو شخص اسے دیکھ لے تو چاہئے کہ اس پر سورہ کہف کی شروع کی آیتیں پڑھ دے کیونکہ اس کا پڑھنا اس کے فتنے سے امن و امان میں رکھے گا۔ بے شک وہ شام اور عراق کے درمیان کے ایک راتتے سے نکلے گا۔ پھر نکل کر دائیں باسیں (یعنی ہر طرف شہروں میں) بہت فساد مچائے گا۔ اے اللہ کے بندو! اس وقت ثابت قدم رہنا۔

راوی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کتنے دن زمین پر (زندہ) رہے گا؟ ارشاد فرمایا کہ چالیس دن اس کے زمین پر رہنے کی مدت ہوگی۔ جن میں سے ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا اور ایک مہینہ دن کے برابر، اور ایک دن ایک ہفتہ کے برابر اور باقی دن ایسے ہی ہوں گے جیسے تمہارے دن ہوتے ہیں۔

راوی کہتے ہیں کہ اس پر ہم نے سوال کیا یا رسول اللہ جو دن ایک سال کا ہوگا اس میں ایک ہی دن کی نماز پڑھ لینی کافی ہوگی؟ ارشاد فرمایا نہیں! بلکہ حساب لگایتا (اور اپنے دنوں کے اندازہ سے روزانہ کی طرح پانچ نمازیں پڑھنا)۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے پھر سوال کیا کہ دجال کس تیزی سے زمین پر سفر کرے گا؟ ارشاد فرمایا جیسے بادل کو ہوا تیزی کے ساتھ اڑائے چلی جاتی ہے۔ اسی طرح تیزی سے زمین پر پھرے گا (مطلوب یہ ہے کہ تھوڑے ہی عرصہ میں ساری زمین پر پھر کر لوگوں کو اپنے فتنے میں بتلا کر دے گا)۔

پھر دجال کے فتنے کی مزید تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک قوم کے پاس وہ پہنچے گا اور ان کو اپنی خدائی کی طرف بلائے گا تو اس پر ایمان لے آئیں گے لہذا وہ (انپی خدائی کا ثبوت ان کے دلوں میں بخانے کے لئے) آسمان کو برنسے کا حکم دے گا تو بارش ہونے لگے گی۔ اور زمین کو کھیتوں کے اگانے کا حکم دے گا تو کھیتیاں اگ جائیں گی اور اس بارش اور کھیتی کے سبب ان کے مویشی اس حالت

میں ان کے سامنے چلنے پھرنے لگیں گے کہ ان کی کمریں خوب اونچی اونچی ہو جائیں گی اور تھن خوب بھرے ہوئے ہوں گے اور کوکھیں خوب پھولی ہوئی ہوں گی پھر دجال ایک دوسری قوم کے پاس آئے گا اور انہیں بھی اپنی خدائی کی طرف بلائے گا وہ اس کی بات کو رد کر دیں گے تو انہیں چھوڑ کر چل دے گا (مگر وہ لوگ امتحان میں آجائیں گے) اور ان کی کھمیتی باڑی سب ختم ہو جائے گی اور بارش بھی بند ہو جائے گی اور ان کے ہاتھ میں ان کے مال میں سے کچھ نہ رہے گا۔

دجال کھنڈر اور ویران زمین پر گزرتے ہوئے کہے گا کہ اپنے اندر سے خزانے نکال دے تو اس کے خزانے اس طرح دجال کے پیچھے لگ جائیں گے جیسے شہد کی کھیاں اپنی سردار کے پیچھے لگ جاتی ہیں۔ اس کے بعد دجال ایک ایسے آدمی کو بلائے گا جس کا بدن جوانی کی وجہ سے بھرا ہوا ہوگا۔ اسے تلوار سے کاٹ کر دو نکڑے کر دے گا اور دونوں نکڑوں کو دور پھینک دے گا جو آپس میں اتنی دور ہوں گے جتنی دور کمان سے تیر جاتا ہے پھر اس شخص کو آواز دے کر بلائے گا وہ ہنستا کھلتا اس کی طرف آجائے گا۔

دجال اسی حال میں ہو گا کہ اچانک اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم کو (آسمان سے) بھیج دے گا چنانچہ وہ شہر دشمن کی جانب ایک سفید مینارے کے قریب دوزرد کپڑے پہنے ہوئے دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے اجب سر جھکا میں گے تو (ان کا پسینہ) ملکے گا اور جب سر اٹھائیں گے تو اس سے موتیوں کی طرح (پسینہ کے نورانی) دانے گریں گے جیسے کہ چاندی کے بنے ہوئے دانے ہوتے ہیں۔

(۱) پہلے گذر چکا ہے کہ نماز کھڑی ہونے لگے گی۔ عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نازل ہوں گے اور نازل ہو کر نماز پڑھائیں گے۔ وہ بھی مسلم شریف کی روایت تھی اور مسلم ہی کی دوسری روایت میں ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نازل ہوں گے تو اس وقت کے جو امیر المؤمنین =>

حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سانس میں یہ تاثیر ہوگی جس کا فرنک پہنچے گا وہ کافر مرجائے گا اور آپ کا سانس وہاں تک پہنچے گا جہاں تک آپ کی نظر پہنچتی ہوگی۔ اب آسمان سے اتر کر دجال کو تلاش کریں گے۔ حتیٰ کہ اسے باب لدی کے قریب پالیں گے اور قتل فرمادیں گے پھر ان لوگوں کے پاس تشریف لے جائیں گے جنہیں اللہ نے دجال کے فتنہ سے بچا دیا ہوا گا اور ان کے چہروں پر (بطور تبرک) ہاتھ پھیریں گے اور ان کی جنت کے درجوں سے باخبر فرمائیں گے۔ (مسلم شریف)

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ (قتل دجال کے بعد) مسلمان دجال کے لشکر کے قتل کرنے میں مشغول ہوں گے اور اس کے لشکر میں جو یہودی ہوں گے انہیں مطلقاً پناہ نہ ملے گی۔ یہاں تک کہ کوئی یہودی درخت یا پتھر کے پیچے چھپ جائے گا تو وہ بھی چغلی کھا کر مسلمان سے قتل کرادے گا۔ حدیث شریف میں اس کا اس طرح ذکر آیا ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک مسلمانوں کی یہود سے جنگ نہ ہو۔ جنگ ہوگی اور یہود کو مسلمان قتل کریں گے۔ حتیٰ کہ اگر یہودی درخت یا پتھر کے پیچے چھپ جائے گا تو <= ہوں گے وہ حضرت صحیح سے نماز پڑھانے کی درخواست کریں گے تو آپ انکار فرمادیں گے اور یہ کہیں گے کہ نہیں تم ہی پڑھاؤ تم ایک کے آپس میں امیر ہو۔ یہ اللہ نے اس امت کا اعزاز رکھا ہے۔ ان دونوں حدیثوں کی وجہ سے علماء امت میں اختلاف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نماز پڑھائیں گے یا حضرت مهدی امام نہیں گے۔ صاحب شرح عقائد کی رائے یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی امام ہوں گے اور حضرت مهدی مقتدی ہوں گے۔ احرar کی رائے بھی یہی ہے کیونکہ پہلی روایت میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے امام ہونے کی تصریح ہے اور اس سے دونوں روایتیں جمع ہو جاتی ہیں کہ پہلے انکار فرمائیں گے اور پھر امت محمدیہ کا اعزاز ظاہر کر کے دوسری درخواست پر نماز پڑھاویں گے۔ (۱) باب لد ملک شام میں ایک پہاڑ کا نام ہے اور بعض کہتے ہیں بیت المقدس کے قریب کوئی بستی ہے۔

وہ درخت اور پھر کہہ دے گا کہ اے مسلمان آمیرے پیچھے یہودی ہے اسے قتل کر دے۔ سوئے غرقد کے درخت کے (کہ وہ نہ بتائے گا۔ کیونکہ غرقد یہودیوں کا درخت ہے) ۱

صاحب مظاہر حق لکھتے ہیں کہ غرقد ایک خاردار درخت کا نام ہے اور یہ جو فرمایا کہ وہ یہود کا درخت ہے کہ یہود سے اسے کوئی خاص نسبت ہے جس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ بعض نے کہا ہے کہ یہ وقت جب ہوگا جب کہ دجال نکل آئے گا اور یہودی اسکے پیچے لگ جائیں گے اور مسلمان ان سے جنگ کریں گے۔

حضرت مهدی علیہ السلام کی وفات اور حضرت

عیسیٰ علیہ السلام کا امام بننا

ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں گزر چکا ہے کہ حضرت امام مهدی علیہ السلام خلیفہ ہونے کے بعد سات برس زندہ رہ کر وفات پائیں گے اور مشکوٰۃ شریف میں حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں شک کے ساتھ ہے کہ یعيش فی ذالک سبع سنین اوثمان سنین او تسع سنین ۲ مهدی اسی (عدل و انصاف کے) حال میں سات یا آٹھ یا نو برس زندہ رہیں گے۔

ممکن ہے کہ راوی سے بھول ہوئی ہو اور صحیح یاد نہ رہنے کے سبب شک کے ساتھ نقل کر دیا ہو حضرت شاہ صاحبؒ نے ان دونوں روایتوں کو یوں جمع فرمایا ہے کہ ان کے دور حکومت میں سات برس بے فکری رہے گی اور آٹھواں برس دجال سے لڑنے بھڑنے میں گذرے گا اور نواں برس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ (۱) مسلم شریف۔ (۲) مدرس حاکم۔

گزرے گا۔ پھر وفات پا جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے جنازہ کی نماز پڑھا کر دفن کر دیں گے (پھر حضرت شاہ صاحب) لکھتے ہیں۔ ”اس کے بعد سارے کاموں کا انتظام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذمہ ہوگا اور زمانہ بہت ہی اچھی حالت پر ہوگا۔

مسلمانوں کو لے کر حضرت عیسیٰ کا طور پر چلا جانا

اور یا جونج ماجونج کا نکلنا

مسلم شریف میں دجال کے قتل ہو جانے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کے پاس پہنچ کر چہروں پر ہاتھ پھیرنے کے بعد یا جونج ماجونج کے نکلنے کا ذکر ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اسی حال میں (یعنی قتل دجال کے بعد لوگوں سے ملنے جلنے میں) ہوں گے کہ اللہ پاک کی ان کی طرف وحی آئے گی کہ بے شک میں اپنے ایسے بندوں کو نکالنے والا ہوں کہ کسی میں ان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے لہذا تم میرے (مومن) بندوں کو طور پر لے جا کر محفوظ کر دو (چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر طور پر تشریف لے جائیں گے) اور خدا یا جونج ماجونج کو پہنچ دے گا اور وہ ہر بلندی سے تیزی کے ساتھ دوڑ پڑیں گے (ان کی کثرت کا یہ عالم ہوگا کہ) جب اگلا گروہ طبریہ کے تالاب پر گزرے گا تو تمام پانی پی جائے گا۔ (اور اسے اس قدر خشک کر دے گا کہ) پیچے کے لوگ اس تالاب پر گزریں گے تو کہیں کہ ضرور اس میں کبھی پانی تھا۔

(۱) صاحب مرقات لکھتے ہیں کہ طبریہ شام میں ایک جگہ کا نام ہے اور صاحب قاموں نے بتایا ہے کہ واسطہ میں ہے جس تالاب کا ذکر حدیث میں ہے وہ دس میل لمبا ہے۔

اس کے بعد چلتے چلتے "خمر" پہاڑ تک پہنچیں گے جو بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے یہاں پہنچ کر کہیں گے ہم زمین والوں کو قتل کر چکے آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ چنانچہ اپنے تیروں کو آسمان کی طرف پھینکیں گے جنہیں خدا (اپنی قدرت سے) خون میں ڈوبا ہوا اپس کردے گا (یا جوج ماجوج زمین میں شروع فساد مچا رہے ہوں گے) اور اللہ کے نبی (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) اپنے ساتھیوں کے ساتھ (کوہ طور پر) گھرے ہوئے ہوں گے حتیٰ کہ (اس قدر حاجت مند ہوں گے کہ) ان میں سے ایک شخص کے لئے نیل کی سری ان سودیناروں سے بہتر ہوگی جو آج تم میں سے کسی بے پاس ہوں (پریشانی دور کرنے کے لئے) اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کی جناب میں گڑگڑائیں گے (اور یا جوج ماجوج کی ہلاکت کی دعا کریں گے) چنانچہ خدا یا جوج ماجوج پر (کبریوں اور اونٹوں کی ناک میں نکلنے والی یہماری جسے عرب والے) نف (کہتے ہیں) بھیج دے گا جوان کی گردنوں میں نکل آئے گی اور وہ سب کے سب ایک ہی وقت میں مر جائیں گے جیسے ایک ہی شخص کو موت آئی ہو اور سب ایسے پڑے ہوں گے جیسے کسی شیر نے پھاڑ ڈالے ہوں۔ ان کے مر جانے کے بعد اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی (کوہ طور سے) اتر کر زمین پر آئیں گے اور زمین پر بالشت بھر جگہ ایسی نہ پائیں گے جو ان کے چربی اور بدبو سے خالی ہو۔ لہذا اللہ کے نبی عیسیٰ (علیہ السلام) اور ان کے ساتھی پلش کی جناب میں گڑگڑائیں گے اور دعا کریں گے کہ خدا یا ان کی چربی اور بدبو سے ہمیں محفوظ کر دے لہذا خدا بڑے بڑے پرندے جو لمبے لمبے اونٹوں کی گردنوں کے برابر ہوں گے بھیج دے گا جو یا جوج ماجوج کی نعشوں کو اٹھا کر جہاں خدا چاہے گا پھینک دیں گے۔ پھر خدا بارش بھیج دے گا جس سے کوئی مکان اور کوئی تیزی نہ پہنچے گا اور بارش ساری زمین کو دھو۔

کر آئینہ کر دے گی (بہذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماتحتی آرام سے زمین پر رہتے تھیں گے اور خدا کا ان پر بڑا نخل و کرم ہو گا اور ان کی خاطر) اس وقت زمین کو (خدا کی جانب سے) حکم دیا جائے گا کہ اپنے پھل اکاوے اور اپنی برکت داہیں کر دے چنانچہ زمین پھل خوب اگانے گا اور اپنی برکتیں باہر پھیٹ دے گی۔ جس کا (نتیجہ یہ ہو گا کہ ایک جماعت ایک اماں کو گھایا کرے گی) (یعنی اماں بہت بڑا ہو گا) اور اماں کے چھٹلے کی محنتیں کر چلا آتیں گے اور دوسرے میں بھی برکت دے دی جائیں گی کہ ایک اونچی کا روپ بہت بڑی جماعت کے (پیش ہونے کے لئے کافی ہو گا اور ایک گھنے کا روپ) ایک بڑے قبیلے کے لئے اور ایک بزرگی کا روپ ایک چھوٹے قبیلے کے لئے کافی ہو گا)۔

مسلمان اسی بیش و آرام اور خیر و برکت میں زندگی لزار رہے ہوں گے کہ (قیامت بہت ای قریب ہو جائے گی اور پوکلہ قیامت کا فرون ہی پر قائم ہو گی اس لئے) اچانک خدا ایک شدہ ہوا نیکے کا بڑا مسلمانوں کی بخوبی میں لگ کر ہر ہوشمن اور مسلم کی روح قبض کرے گی اور دو تین لوگ باقی روپ نیکی میں گئے جو مددوں کی طرح (سب کے سامنے پہ جائی کے سب) خود توں سے زنا کریں گے انہیں پر قیامت آئے گی۔

ترمذی شریف کی روایت میں یہ بھی ہے کہ یا جوں ماجھن کی کمانوں اور تیروں اور ترکشیوں کو سات سال تک مسلمان چلانیں گے۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں رعایا کی حالت
اوپر کی روایت سے معلوم ہو چکا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ اصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں پھلوں، قلاؤں اور دوڑھ میں بہت زیادہ برکت ہو گی۔
(ا) مسم شریف۔

دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سات برس زندہ رہیں گے (اور مسلمانوں کی آپس کی محبت کا یہ حال ہو گا کہ) دوآدمیوں میں ذرا بھی دشمنی نہ ہو گی۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے ایسا ضرور ہو گا کہ ابن مریم (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) تم میں اتریں گے جو منصف حاکم ہوں گے (آسمان سے اتر کر عیسائیوں کے پوچنے کی) صلیب توڑ دیں گے (یعنی عیسائیت کو ختم فرمائیں گے) اور دین محمدی ﷺ کو بلند کر دیں گے اور خزر کو قتل کر دیں گے (جسے عیسائی حلال سمجھ کر خوب کھاتے ہیں) اور جزیہ لینا بند کر دیں گے (یعنی ان کے دور حکومت میں غیر مسلموں سے جزیہ نہ لیا جائے گا کیونکہ وہ اسلام کو خوب پھیلائیں گے اور اہل کتاب یہود و نصاریٰ ان کے تشریف لانے پر ان پر ایمان لے آئیں گے لہذا جزیہ دینے والا کوئی نہ رہے گا۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو گی کہ اس زمانہ میں مال بہت ہو گا اور جزیہ لینے کی ضرورت ہی نہ رہے گی۔ جیسا کہ آگے فرمایا اور مال بہادیں گئے تھی کہ اسے کوئی قبول نہ کرے گا (اور دین کی قدر دلوں میں اس قدر بیٹھ جائے گی کہ) ایک سجدہ ساری دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے بہتر ہو گا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ میری روایت کی تصدیق کے لئے چاہو تو یہ آیت پڑھ لو۔

وَإِنْ بِمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ۝

اور کوئی اہل کتاب ایسا نہیں جو حضرت عیسیٰ کے زمانہ میں موت سے پہلے

ان پر ایمان نہ لائے۔

(۱) مسلم شریف۔ (۲) بخاری و مسلم۔

مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں (اس قدر مال ہوگا اور آپس میں اس قدر محبت ہوگی کہ) اونٹیاں (یوں ہی) چھوڑ دی جائیں گی کہ ان پر سوار ہو کر تجارت وزراعت وغیرہ کی کوشش نہ کی جائے گی۔ (اونٹی بطور مثال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مال بہت ہوگا اور کمانے کے لئے ادھر ادھر جانے اور سوار یوں پر لادنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ اور ضرور بضرور (دونوں سے) دشمنی جاتی رہے گی اور آپس میں بعض وحدت نہ رہے گا (اور لوگوں کو) ضرور بضرور مال کی طرف بلا یا جائے گا اور کوئی بھی قبول نہ کرے گا۔

حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کی حالت معلوم کرنے اور ان دونوں کی مدت حکومت کو ملانے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں ۱۲ برس ایسے ہوں گے کہ دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوگا اور مال و دولت کی کثرت ہوگی۔ آپس میں محبت کا یہ عالم ہوگا کہ ذرا بھی دشمنی نہ ہوگی۔ بعض وحدت نام کو نہ ہوگا۔ غالباً اسی زمانہ کے بارے میں رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا۔

لاک یقینی علی وجہ الارض بیت مدرولا وبرالا ادخله الله
کلمة الاسلام بعز عزیز وذل ذلیل اما يعزهم الله فيجعلهم من اهلها او
يذلهم فيدينون لها (احمد)

زمیں پر کوئی مٹی کا گھر اور کوئی خیمہ ایسا باقی نہ رہے گا جس میں اللہ اسلام کا کلمہ داخل نہ فرمادے (اور یہ داخل کرتا دو صورتوں میں ہوگا) یا تو خدا عزت والوں کو عزت دے کر کلمہ اسلام کا قبول کرنے والا بنادے گا (اور وہ بخوبی مسلمان (۱) کیونکہ بقول حضرت شاہ رفیع الدین صاحب حضرت مہدی کی مدت حکومت ۹ برس ہوگی اور سات برس حضرت عیسیٰ کی مدت حکومت ہوگی جس میں ایک برس دونوں کی موجودگی میں گذرے گا اور ایک برس دجال سے لانے میں ختم ہوگا۔ ۱۲

ہو جائیں گے) یا ذلت والوں کو خدا ذلت دے دئے گا اور وہ کلمہ اسلام کے سامنے (مجبور ہو کر) جھک جائیں گے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور ان کے بعد دیگر امرا

روایت گزر چکی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر کر سات برس دنیا میں رہیں گے۔ پھر اس دار فانی کو چھوڑ کر عالم آخرت کو تشریف لے جائیں گے۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ شادی بھی کر لیں گے اور اولاد ہوگی اور رسول اللہ ﷺ کی قبراطہر کے پاس ہی آپ دفن ہوں گے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے کوچ کرنے کے بعد آپ کا جانشین کون ہوگا؟ اس کا حال دوسری حدیثوں سے معلوم نہیں ہوتا۔

خدا ہی جانے آپ کے بعد کون حاکم ہوگا۔ البتہ حدیثوں سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے بعد دین کمزور ہو جائے گا۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے سنن ابن ماجہ سے روایت نقل کی ہے کہ اسلام اس طرح مت جائے گا جیسے

(۱) مخلوکہ۔ (۲) حضرت شاہ رفیع الدین لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جانشین ایک شخص جہا نا ی قبیلہ مقطان سے ہوگا جو انصاف والوں کی طرح سلطنت کرے گا۔ لیکن یہ صحیح نہیں معلوم ہوتا کیونکہ جہا کے بارے میں یہ ثابت نہیں کہ وہ مقطان سے ہوگا بلکہ اغلب یہ ہے کہ حدیثوں میں جو مقطانی اور جہا کا ذکر ہے وہ دونوں الگ الگ ہوں گے۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اس کو ترجیح دی ہے، نیز ملک مقطان کا نیک اور منصف ہوتا بھی حدیث میں مذکور نہیں ہے۔ بلکہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ اپنی لکڑی سے لوگوں کو ہانکے گا اس سے معلوم ہوا کہ وہ درشت طبع ہوگا اور حافظ ابن حجر نے اس کے ظالم اور فاسق ہونے کی تصریح کی ہے۔^{۱۲}

کپڑے کی دھاری (دھلتے دھلتے) مٹ جاتی ہے حتیٰ کہ یہ بھی نہ جانا جائے گا۔ کہ روزے کیا ہیں اور نماز کیا ہے؟ حج کیا ہے اور صدقہ کیا ہے اور بوڑھے مرد اور عورتوں کی کچھ جماعتیں باقی رہ جائیں گی جو کہیں گے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو کلمہ لا الہ الا اللہ پر پایا تھا تو ہم بھی اسے پڑھ لیتے ہیں۔ اس سے آگے کچھ نہیں جانتے۔

قرب قیامت کی کچھ اور بڑی نشانیاں

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جہالت اور بد دینی بڑھتی چلی جائے گی حتیٰ کہ زمین پر کوئی اللہ اللہ کنبے والا بھی باقی نہ رہے گا اور بہت ہی برے انسان دنیا میں رہ جائیں گے اور انہیں پر قیامت قائم ہوگی۔ اس دوران میں قیامت کی باقی نشانیاں بھی ظاہر ہوں گے جن کا حدیثوں میں ذکر آیا ہے۔ مثلاً حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت ہرگز قائم نہ ہوگی جب تک تم اس سے پہلے دس نشانیاں نہ دیکھ لو۔

(۱) دھواں (۲) دجال (۳) دابة الارض (۴) پچھم سے سورج کا نکنا (۵) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا (۶) یا جوج ماجوج کا نکنا (۷، ۸، ۹) زمین میں تین جگہ لوگوں کا ڈھنس جانا ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں اور تیسرا عرب میں (۱۰) اور ان سب کے آخر میں آگ میں سے نکلے گی جو لوگوں کو ان کی محشر کی طرف (گھیر کر) پہنچا دے گی۔

دوسری روایت میں دسویں نشانی (آگ کے بجائے) یہ ذکر فرمائی کہ ایک ہوا نکلے گی جو لوگوں کو سمندر میں ڈال دے گی۔ (مشکلۃ)

اس حدیث میں جن دس چیزوں کا ذکر ہے۔ ان میں سے دجال اور یا جوج

ماجوح اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کا مفصل بیان پبلے گزر چکا ہے۔ باقی چیزوں کو ذیل میں درج کرتا ہوں۔

دھوال

اس حدیث میں قیامت سے پبلے جس دھوئیں کے ظاہر ہونے کا ذکر ہے اس کے بارے میں شارح مشکوٰۃ علامہ طبیٰ لکھتے ہیں کہ اس سے وہی دخان مراد ہے جو سورۃ الدخان کی آیت:

فَإِنَّمَا يَرَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُؤْمِنُونَ بِهِ وَالظَّاهِرُونَ

”سو انتظار کر اس دن کا جب کہ آسمان ظاہر دھوال لائے گا“

جو لوگوں پر چھا جائے گا۔“

میں ذکر ہے مگر اس کے بارے میں حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ فرماتے تھے کہ اس میں قیامت کے نزدیک کسی نے دھوئیں کے ظاہر ہونے کی خبر نہیں دی گئی بلکہ اس سے قریش مکہ کا وہ زمانہ قحط مراد ہے جو آخر حضرت ﷺ کے زمانہ میں پیش آیا اور قریش مکہ بھوک سے اس قدر پریشان ہوئے کہ آسمان و زمین کے درمیان کا خلا انہیں دھوال دکھائی دیتا تھا حالانکہ حقیقت میں نہ تھا۔

لیکن حضرت حذیفہؓ اس بارے میں حضرت ابن مسعودؓ سے متفق نہ تھے بلکہ فرماتے تھے کہ اس آیت میں قیامت کے قریب ایک دھوئیں کے ظاہر ہونے کی خبر دی گئی جس کی تفصیل خود سورۃ عالم ﷺ سے منقول ہے کہ جب آپ سے اس کا مطلب دریافت کیا گیا تو ارشاد فرمایا کہ

”ایسا دھوال ہو گا کہ جو مشرق سے مغرب تک خلا بھر دے گا اور چالیس دن رہے گا۔ اس دھوئیں سے اہل ایمان کو زکام کی طرح تکلیف محسوس ہو گی اور کافر

بے ہوش ہو جائیں گے۔” (مرقاۃ)

دابة الارض

(زمین کا چوپا یہ) یعنی ایک ایسا جانور جو زمین سے نکل کر اہل ایمان کی پیشانی پر نورانی خط ھتھیج دے گا اور کافروں کی ناک یا گردن پر سیاہ مہر لگادے گا۔ سورہ نمل کی آیت میں اس جانور کا ذکر آیا ہے۔

وَإِذَا وَقَعَ الْقُولُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا أُهْمَدَ أَبْتَهَ فَنَّ الْأَرْضَ تُكَلِّمُهُمُ
أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَأْتِنَا لَا يُوقِنُونَ

اور جب ان پر وعدہ قیامت پورا ہونے کو ہوگا تو ہم ان کے لئے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے با تسلی کرے گا کہ لوگ ہماری (یعنی اللہ جل شانہ کی آئتوں پر یقین لاتے تھے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ جس روز مغرب سے آفتاب نکل کر واپس ہو کر غروب ہو گا اس سے دوسرے دن صفا پہاڑ (جو کہ نکلے گا جس کامنہ انسانوں کے منہ کی طرح ہو گا اور پاؤں اوٹ جیسے ہوں گے اور گردن گھوڑے کی گردن کے مشابہ ہوگی۔ اس کی دم گائے کی دم کی طرح اور کھر ہرن کے کھروں جیسے اور سینگ بارہ سنگھے کے سینگوں کے مشابہ ہوں گے ہاتھوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ بندر کے ہاتھوں جیسے ہوں گے۔

پھر لکھتے ہیں کہ وہ بڑی فصاحت سے لوگوں سے گفتگو کرے گا اور اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور دوسرے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ اس تیزی سے تمام ملکوں میں پھرے گا کہ کوئی ڈھونڈنے والا اسے نہ پائے گا اور کوئی بھاگنے والا اس سے بچ کرنے جا سکے گا اور تمام انسانوں

پر نشان لگا دے گا۔ ہر مومن کی پیشانی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے ایک خط کھینچ دے گا جس سے اس کا سارا منہ نورانی اور بارعب ہو جائے گا اور ہر کافر کی ناک یا گردن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے مہر لگا دے گا جس کی وجہ سے سارا منہ کالا ہو جائے گا اور مومن و کافر میں پورا پورا فرق ہو جائے گا) حتیٰ کہ اگر ایک دستر خوان پر بہت سی جماعتیں میٹھے جائیں تو مومن و کافر الگ الگ ہو جائیں گے۔

اس کام سے فارغ ہو کر وہ جانور غائب ہو جائے گا۔

مغرب سے آفتاب نکلنا

حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے (ایک دن مجھ سے) سورج چھپ جانے کے بعد فرمایا تم جانتے ہو یہ کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیشک یہ چلتے چلتے عرش کے نیچے پہنچ کر (خدا کو) سجدہ کرتا ہے اور حسب عادت مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت چاہتا ہے اور اسے اجازت دے دی جاتی ہے اور ایسا بھی ہونے والا ہے کہ ایک روز یہ سجدہ کرے گا اور اس کا سجدہ قبول نہ ہو گا اور (مشرق سے طلوع ہونے کی) اجازت چاہے گا اور اجازت نہ دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ جہاں سے آیا ہے وہیں واپس لوٹ جا۔ چنانچہ (سورج واپس ہو کر) مغرب کی جانب سے طلوع ہو گا پھر فرمایا کہ

وَاللَّهُمْسُوْبَجُرِيْلِسْتَقْبِلَهَكَل (یس) سورج اپنے ٹھکانے کو جاتا ہے۔

کا یہی مطلب ہے کہ (اپنے مقرر ٹھکانے تک جا کر مشرق سے نکلتا ہے) اور فرمایا کہ اس کا ٹھکانا عرش کے نیچے ہے۔ (بخاری و مسلم)

اس حدیث مبارک کے علاوہ دیگر احادیث میں بھی مغرب سے سورج نکلنے کا ذکر آیا ہے مثلاً حضرت صفوان بن عسال فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے مغرب میں توبہ کا ایک دروازہ بنایا ہے جس کا عرض ستر سال کی مسافت ہے (یعنی وہ اس قدر وسیع ہے کہ اس کی جانب سے دوسری جانب تک پہنچنے کے لئے ستر سال درکار ہیں) یہ دروازہ اس وقت تک بند نہ ہوگا جب تک مغرب سے سورج نہ نکل۔ پھر فرمایا کہ اللہ عزوجل کے ارشاد ذیل کا یہی مطلب ہے۔

**يَوْمَ يَأْتِيَ بَعْضُ أَيْتَ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ يَكُنْ أَمَنْتُ
مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبْتَ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا**

ترجمہ:- جس روز تمہارے رب کی ایک نشانی آپنچے گی کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے مومن نہ تھا یا اپنے ایمان میں اس نے کوئی نیک عمل نہ کیا تھا۔

مطلوب یہ ہے کہ جب آفتاب مغرب سے نکل آئے گا تو نہ کافر کا مومن ہو جانا قبول ہوگا اور نہ کسی ایمان والے کی گناہوں سے توبہ قبول کی جائے گی۔ بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں یہ صاف تصریح آئی ہے کہ جب سورج کو مغرب سے نکلا ہوا دیکھیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے اور اس وقت کسی کا ایمان یا توبہ قبول نہ ہوگی۔

حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ رات کو خدا اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گنہگار توبہ کر لیں اور بلاشبہ دن کو خدا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گنہگار توبہ کر لیں جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ سورج

کے پھقتم سے نلتے سے پہلے جو کوئی تو پر کرے گا خدا اس کی تو پر قبول کرے گا۔
شیع الباری میں طبرانی سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ مغرب سے آناتاب
طلوع ہونے کے بعد قیامت تک کسی کا ایمان یا تو پر قبول نہ ہوگی۔

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تکھستے ہیں کہ ایک رات اس قدر بھی ہو گی کہ
مسافر چلے چلنے تکبر اجاہیں گے اور پچھے سوتے سوتے آتا جائیں گے۔ اور جانور
جکل جانے کے لئے چلانا شروع کر دیں گے لیکن سورج ہرگز نہ لٹکے گا حتیٰ کہ لوگ
خوف و تکبر اہم سے بے قرار ہو کر گریے و زاری اور قوبہ کرنے لگتیں گے۔ یہ رات
تمن چار راتوں کے برابر بھی ہو گی اور لوگوں کی حالت تکبر اہم سے وقت تھوڑی ہی
روشنی لے کر پھقتم کی جانب سے سورج نکل آئے گا۔ اس کی روشنی اتنی ہو گئی ہیچی
غمبز کے وقت چاند کی ہوتی ہے ۷

صاحب بیان القرآن تکھستے ہیں کہ درمنثور میں ایک روایت نقل کی ہے کہ
آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔ مغرب سے طلوع ہو کر جب آناتاب ۷ آسمان میں
پہنچ جائے گا تو واپس لوٹ جائے گا۔ اور مغرب یہ میں غروب ہو کر بدستور مشرق
سے نکلنے لگے گا۔

شیع الباری میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ
مغرب سے آناتاب طلوع ہونے کے بعد ایک سو بیس سال انسان اور زندہ رہیں
گے۔ پھر قیامت آئے گی۔

زمین میں دھنس جانا

حدیث شریف میں تصریح ہے کہ تم متعاہد پر لاگ زمین میں دھنساریے

(۱) مسلم شریف۔ (۲) قیامت نام۔

جائیں گے ایک مشرق میں دوسرے مغرب میں اور تیرے جزیرہ عرب میں حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ عذاب تقدیر کے جھٹلانے والوں پر آئے گا۔ خود حدیث میں اس کی صاف تصریح بھی وارد ہوتی ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مردی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اس امت میں زمین میں دھنس جاتا اور صورتوں کا مسخ ہو جانا واقع ہوگا اور یہ تقدیر کو جھٹلانے والوں میں ہوگا۔

یمن سے آگ کا نکلنا

ایک آگ یمن سے نکل کر لوگوں کو محشر کی طرف گھیر کر پہنچا دے گی۔ صاحب مرقات لکھتے ہیں کہ محشر سے شام کی سرز میں مراد ہے کیونکہ حدیث سے بتا ہے کہ شام کی سرز میں میں (فخ صور کے بعد) حشر ہوگا۔

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ان ہی دنوں (جب کہ زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ رہے گا) ملک شام میں امن ہوگا اور غلبہ بھی ستا ہوگا خواہ سو داگر ہوں خواہ دستکار ہوں خواہ سرمایہ دار غرضیکہ سب کے سب گھر کے اسابlad کر ملک شام کی طرف روانہ ہو جائیں گے اور جو لوگ دوسرے ملکوں میں چلے گئے تھے وہ بھی ملک شام میں آ کر آباد ہو جائیں گے اور تھوڑے ہی دنوں کے بعد ایک بہت بڑی آگ ظاہر ہوگی اور لوگوں کو کھریدتی ہوئی ملک شام پہنچا دے گی۔ اس کے بعد وہ آگ غالب ہو جائے گی۔ کچھ عرصہ بعد لوگ اپنے اپنے وطنوں کا سخ کریں گے (اور دوسرے ملکوں میں بھی آدمی جا کر واپس جائیں گے) لیکن ملک شام میں پوری آبادی رہے گی یہ قیامت کے نزدیک بالکل آخری علامت ہو گی اور اس کے تین چار برس بعد قیامت آجائے گی۔

سمندر میں پھینکنے والی ہوا

مسلم کی ایک روایت میں دس نشانیوں میں سے قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ذکر فرمائی ہے کہ ایک ہوا ایسی ظاہر ہوگی جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی اس کی مزید توضیح کسی کتاب میں میری نظر سے نہیں گزری۔

قیامت کے بالکل قریب لوگوں کی حالت اور

وقوع قیامت

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت بدترین مخلوق پر قائم ہوگی۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ کہا جائے گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ کسی ایسے ایک شخص پر (بھی) قیامت قائم نہ ہوگی جو اللہ اللہ کہتا ہو گا۔

مسلم شریف کی ایک حدیث پہلے گزر چکی ہے جس میں یہ مذکور تھا کہ اچانک خدا ایک ہوا بھیج دے گا جو مسلمانوں کی بغلوں میں لگ کر ہر مومن اور مسلم کی روح قبض کر لے گی اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے۔ (سب کے سامنے بے حیائی سے) گدھوں کی طرح عورتوں کے ساتھ زنا کریں گے انہیں پر قیامت قائم ہوگی۔

حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں ایک روایت طبرانی سے نقل کی ہے جس میں اس بے حیائی کا تفصیلی نقشہ بھی مذکور ہے۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قیامت اس

وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ایسا نہ ہو کہ ایک عورت مردوں کے مجمع پر گزرے گی اور ان میں سے ایک شخص کھڑے ہو کر اس کا دامن اٹھائے گا (جیسے دنبی کی دم اٹھائی جاتی ہے اور اس سے زنا کرنے لگے گا) (یہ حال دیکھ کر) ان میں سے ایک شخص کہے گا کہ اس کو دیوار کے پیچھے ہی چھپا لیتا تو اچھا تھا (پھر فرمایا کہ) یہ شخص ان میں ایسا (مقدس بزرگ) ہو گا جیسے تم میں ابو بکرؓ عمرؓ ہیں۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ رات اور دن اس وقت تک ختم نہ ہوں گے جب تک لات اور عزیزی کی پوجا دوبارہ نہ ہونے لگے (لات اور عزیزی مشرکین عرب کے دوبت تھے اسلام قبول کرنے پر ان کی پوجا بند ہو گئی لیکن پھر ان کی پوجا ہونے لگے گی) حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ جب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

**هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ يَا إِلَهُ الْهُدُى وَ دِينُ الْحَقِّ يُظْهِرُهُ عَلَى الَّذِينَ كُلُّهُمْ^۱
وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ^۲**

ترجمہ:- وہ اللہ ایسا ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سجادہ دے کر بھیجا ہے تاکہ اس کو تمام دنیوں پر غالب کر دے۔

تو میں نے یہی سمجھ لیا تھا کہ جو اس آیت میں فرمایا گیا ہے وہ ہو کر رہے ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ لات اور عزیزی کی دوبارہ پرستش شروع ہو جائے گی پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ جب تک خدا چاہے گا یہ (غلبہ اسلام) رہے گا پھر خدا ایک عمدہ ہوا بھیجے گا جس کی وجہ سے ہر اس مومن کی وفات ہو جائے گی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو گا اس کے بعد وہ لوگ رہ جائیں گے جن میں کچھ بھلائی نہ ہوگی لہذا اپنے باپ داداؤں کے دین کی

طرف لوٹ جائیں گے۔

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ (دجال کے قتل ہو جانے کے بعد) سات برس لوگ اس حال میں رہیں گے کہ دو آدمیوں میں ذرا سی دشمنی نہ ہوگی۔ پھر ملک شام سے ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی جس کی وجہ سے (تمام مومن ختم ہو جائیں گے) زمین پر کوئی ایسا شخص باقی نہ رہے گا۔ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو اور اس ہوا کے سبب اس کی روح قبض نہ ہو جائے حتیٰ کہ اگر تم (مسلمانوں میں سے) کوئی پہاڑ کے اندر (کسی کھو میں) داخل ہو جائے گا تو وہ ہوا (وہاں بھی ضرور داخل ہو کر اس کی روح قبض کر لے گی)۔

(پھر فرمایا کہ اس کے بعد بدترین لوگ رہ جائیں گے جو (برے کرتوقلوں اور شرارتوں کی طرف بڑھنے میں) ہلکے پرندوں کی طرح (تیزی سے اڑنے والے) ہوں گے اور (دوسروں کا خون بہانے اور جان لینے میں درندل جیسے اخلاق والے ہوں گے۔ نہ بھلانی کو پہچانتے ہوں گے نہ برائی کو برائی سمجھتے ہوں گے۔ ان کا یہ حال دیکھ کر شیطان انسانی صورتوں میں ان کے سامنے آ کر کہے گا کہ (افسوں تم کیسے ہو گئے، تمہیں شرم نہیں آتی (کہ اپنے باپ داداؤں کا دین چھوڑ بیٹھے؟) وہ کہیں گے تو ہی بتا کیا کریں؟ وہ انہیں بت پرستی کی تعلیم دے گا (اور وہ بت پوچنے لگیں گے) وہ اسی حال میں ہوں گے (یعنی بت پوچتے ہوں گے شر و فساد میں تیزی سے ترقی کر رہے ہوں گے اور درندوں کی طرح خون بہانے میں مصروف ہوں گے اور) انہیں خوب رزق مل رہا ہوگا اور اچھی زندگی گزر رہی ہوگی۔ پھر (کچھ عرصہ کے بعد) صور پھونکا جائے گا جسے سن کر سب انسان

بیہوش ہو جائیں گے اور) جو کوئی بھی اسے نے گا (دہشت کے سب حیران ہو کر) ایک طرف گردن جھکا دے گا اور دوسری طرف کواٹھا دے گا۔

پھر فرمایا کہ سب سے پہلے جو شخص اس کی آواز نے گا وہ ہوگا جو اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کا حوض لیپ رہا ہوگا۔ یہ شخص صور کی آواز سن کر بیہوش ہو جائے گا اور (پھر) سب لوگ بیہوش ہو جائیں گے پھر خدا ایک بارش بھیجے گا۔ جو شبم کی طرح ہوگی اس کی وجہ سے آدمی اگ جائیں گے (یعنی قبروں میں مٹی کے جسم بن جائیں گے۔ پھر دوبارہ صور پھونکا جائے گا۔ تو اچانک سب کھڑے دیکھتے ہوں گے۔

بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ البتہ قیامت ضرور اس حالت میں قائم ہوگی کہ دو شخصوں نے اپنے درمیان (خریدو فروخت کے لئے) کپڑا کھول رکھا ہوگا اور ابھی معاملہ طے کرنے اور کپڑا لپینے بھی نہ پائیں گے کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ (پھر فرمایا کہ) البتہ قیامت ضرور اس حال میں قائم ہوگی کہ ایک انسان اپنی اونٹی کا دودھ نکال کر جارہا ہوگا اور پی بھی نہ سکے گا اور قیامت یقیناً اس حال میں قائم ہوگی کہ انسان اپنا حوض لیپ رہا ہوگا اور ابھی اس میں (مویشیوں کو پانی بھی نہ پلانے پائے گا اور واقعی قیامت اس حال میں قائم ہوگی کہ انسان اپنے منہ کی طرف لتمہ اٹھائے گا اور اسے کھا بھی نہ سکے گا)۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے آج کل کی طرح لوگ کاروبار میں لگے ہوئے ہیں اسی طرح قیامت کے آنے والے دن بھی مشغول ہوں گے اور قیامت یا کیک آجائے گی۔ جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے:

بَلْ تَأْتِيهِمْ بَعْثَةٌ فَيَقُولُهُمْ فَلَا يَسْتَطِعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ[®]

بلکہ قیامت ان پر اچانک آپنچھے گی سوان کے ہوش کھو دے گی۔ پھر نہ اسے ہٹا سکیں اور نہ انہیں مہلت ہی دی جائے گی۔

الحاصل قیامت کی نشانیں اللہ رب العزت نے اپنے رسول کی زبانی بندوں تک پہنچا دی ہیں اور اس کے آنے کا ٹھیک وقت خود سرور عالم ﷺ کو بھی نہیں بتایا البتہ ابن ماجہ اور مند احمد کی روایت میں اتنا ضرور ہے کہ قیامت جمعہ کے دن آئے گی اور یہ بھی فرمایا کہ تمام مقرب فرشتے اور ہر ایک آسمان ہر ایک زمین پر ہوا ہر پہاڑ ہر دریا ڈرتا ہے کہ کہیں آج ہی قیامت نہ ہو۔ غرضیکہ قیامت کا ٹھیک وقت اللہ کے سوا کسی کو پہنچنے کی بحث لوگوں نے انکل سے قیامت کے آنے کا وقت بتایا ہے مگر وہ مخفی انکل اور انہم الا يخر صون کے درجہ میں ہے۔ جب لوگوں نے سرور عالم ﷺ سے قیامت کا وقت پوچھا تو اللہ جل شانہ کی جانب سے حکم ہوا کہ


فُلِ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّهَا لَوْقَةٌ إِلَّا هُوَ نَقْلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
لَا تَأْتِيْكُمْ إِلَّا بُغْتَةً

ترجمہ:- تم کہ دو کہ اس کا علم میرے پروردگار ہی کو ہے وہی اس کے وقت پر اسے ظاہر کرے گا وہ آسمانوں اور زمینوں پر بھاری ہو گی اچانک تم پر آپنچھے گی۔

وَهَذَا آخِرُ السُّطُورِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ الْمَسْطُورِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
الْخَالِقِ الْعَلِيمِ بِذَاتِ الصَّدُورِ وَالصَّلُوةُ عَلَى سِيدِ رَسُولِهِ
الَّذِي جَاءَ بِهِدَايَةِ الْإِسْلَامِ وَالنُّورِ وَعَلَى الْهُوَ وَصَحْبِهِ
الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي الْمَكْرَهِ وَالسُّرُورِ



مَارِنِي دِیْجُور مَطَبُوعَات



مکتبہ حقانیہ

ٹی بی ہپتال روڈ ملتان پاکستان

061-541093